

# رواد جماعتِ اسلامی

حصہ دوم

مرتبہ

شبہ تنظیم جماعتِ اسلامی

شعبہ نشر و اشاعت جماعتِ اسلامی، پاکستان،

منصورہ ————— راہور مک

# فہرست مصائب

- ۷ رُدود اجتماع دار الاسلام
- ۸ غیر رسی ملاقاتیں
- ۹ امیدوارانِ رکنیت سے  
طريق تبیغ
- ۱۰ پہلی باقاعدہ نشست
- ۱۱ تقریر امیرِ جماعت
- ۱۲ ہمارے اجتماعات کی نوعیت اور غرض
- ۱۳ اجتماعات میں حاضری کی اہمیت

۱۳	بجود میں بستارگان
۱۴	جماعت سے علیحدہ ہر نیو اے لوگ
۱۵	رجحت اور سرد ہیری کے اسباب
۱۶	پہلا اسباب
۱۷	دوسرا اسباب
۱۸	تیسرا اسباب
۱۹	دھوت حق ایک عظیم آزمائش ہے
۲۰	اس دھوت کے کام کے لیے جو شخصی اور جماعتی اوصاف مزدی ہیں
۲۱	شخصی اوصاف
۲۲	جماعتی اوصاف
۲۳	جادو و فی سبیل اللہ کے لیے مزدی اوصاف
۲۴	پیش نظر کام
۲۵	دوسری نشست
۲۶	رپورٹوں پر تبصرہ (جانب مروانا میں حسن حب الصلاحی)
۲۷	تبیین حق کی مشکلات کا علاج
۲۸	انڈیا کے علیہم السلام کے کام کی خوفزیات
۲۹	تبییری نشست — تجاویز

- ٤١ تجویز ۱۔ (رقم جماعت کا تقرر)
- ٤٢ تجویز ۲۔ (حکومیتی و صنعتی مرکزی کا رقم)
- ٤٣ تجویز ۳۔ (جماعت کے مرکز کو کسی بھر قائم پر قلع کرنے کے بارے میں)
- ٤٤ تجویز ۴۔ (بچوں کے لئے تربیت گاہ)
- ٤٥ تجویز ۵۔ (بین الملک کو مضمون کرنسی کی تدبیر)
- ٤٦ تجویز ۶۔ (دن سے حرم معیشت کی تدوین)
- ٤٧ تجویز ۷۔ (لہازیں اور مزدود عوں کے حقوق کا تعین کیا جائے)
- ٤٨ تجویز ۸۔ (اماسی تعلیم کے لیے نصاب کی تدوین)
- ٤٩ تجویز ۹۔ (عربی بول چال کی خادت)
- ٥٠ تجویز ۱۰۔ (جماعتی نظریہ کی اشاعت کے بارے میں)
- ٥١ تجویز ۱۱۔ (امیر کے نزد مکے بارے میں)

## چوتھی نشست

- ۱ امیر جماعت کی اختتامی تقریب
- ۲ ہماری تبلیغی پاٹی
- ۳ القدم فالالقدم
- ۴ فروعات سے پہلے اصل الاصل پر زور
- ۵ کتاب و سنت سے برآہ راست و افہمت
- ۶ مبالغہ سے احتراز

۷۴	مشترک جلسوں سے پرہیز
۷۹	دارکس کا قیام
۸۰	معاقی کام اور تنظیم
۸۱	مالی ایثار
۸۲	ہبھتہ دار اجتماعات کی پابندی
۸۳	مرکز سے وابستگی
۸۴	تعدیم بالغائی
۸۵	اجتماع سے واپسی
۸۵	مصارف اجتماع
۸۶	جماعت کے ہمدردوں اور کرم فرماؤں سے معدالت
۸۸	حساب آمد و خرچ ۱۹۴۳ء

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## رُوْدَاوَا جَمَائِعِ دَارِ الدِّيْنِ

حسب اعلان ۱۹۳۴ء، ۲۴ مارچ ۱۹۳۴ء کو دارالاسلام  
متصل پھانکوٹ، آندھیا میں ارکانِ جماعت، اسلامی شماری پہنچہ، چاپ،  
برحد، سندھ، کشمیر و بلوچستان کا اجتماع ہوا جس میں مرکزی منظوری سے  
بعض ہمدردانہ جماعت، بھی شرکیب ہوتے۔ یوپی اور پہار سے چناب  
مولانا امین احسن صاحب، اسلامی رسمائیہ، صلح اعظم (گلڑھ) اور چناب  
محمد حسینی صاحب سید راہر نایر (درجنگلہ)، بھی تشریف لے آتے  
تھے۔ تعداد حاضرین تقریباً ۵۰ تھی۔

### غیر رسمی ملاقاتیں

۲۴ مارچ کو ۱۷ بجے صبح سے ۱۷ بجے دہنڑک اور پھر نماز ظہر سے ناز عصر تک  
 مختلف مقامات سے آئے والے گردہوں نے ایمیر جماعت کے سامنے لگنی ملاقاتیں  
میں مقامی حالات پیش کیے، اپنی اپنی کارگزاریوں کا مختصر تذکرہ کیا۔ اپنی مشکلات  
بیان کیں اور ضروری امور میں مشورہ سے محاصل کیے۔ اسی دوران میں چند اصحاب نے

اپنے اپ کو رکنیت جماعت کے لیے پیش کیا۔ اس پر ایم جماعت نے چند اہم نکات پیان فرماتے ہیں تسلیم کے ساتھ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

### ایم دار ان رکنیت سے

ہمارے ہاں جماعت کی شرکت میں تو کوئی دشواری نہیں ہے مگر شرکت جماعت سے ذمہ داریوں کا جو بارگزاں اٹھانا پڑتا ہے اس کے وزن کو اگے بڑھنے سے پہلے عسوس کر لینا چاہیے رکنیت کی ذمہ داریوں کا میک میج اندازہ لیکے بغیر لوگ ہماری طرف بڑھاتے ہیں اور نصب العین میں مقدمہ ہونے کے باوجود زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء م طریق کارکے اختلاف پر گہری فنظر نہیں ہوتی لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے یہ اختلاف ابھرنے لگتا ہے اور لوگ اپنے اپنے پسندیدہ طریق کارکی محبت کے چوش میں اک نظم جماعت کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں اور بسا اختلاف نصب العین تک سے فائل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ حضرت نے بہت بھی طرح ہمارے طریق کارکو تعمیر لیا ہوا دراں کے ساتھ دمرے طریق پاتے کارکا فرق نہیں نشیان ہو گیا ہو، نیز آپ برصاد رغبت دوسرے طریقوں کو چوڑ کر ہمارا طریقہ کارا ختیار کرنے پر آمادہ ہوں تو ایسے بسم اللہ اور نہ جلدی نہ کیجئے ہماسے لڑی پھر کابغور و مطالعہ کرتے رہتے اور ہمارے کام کو مزید کچھ عرصہ دیکھ کر آخری راتے ہماسے کیجئے۔

الحمد للہ کہ مسلمانوں میں ابھی تک میج العقیدہ لوگوں کی ایک خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس حق موجود ہے مگر فرق بس آناتا ہے کہ عموماً انہوں نے کوئی کسی جزو حق کو لے کر چل رہے ہیں، بخلاف اس کے ہم پورے حق کو لے کر

چنانچاہتے ہیں۔ آپ حضرات کے ساتھ پہنچے جو جزو حق مقادہ بدستور ساختہ ہے گا۔  
مگر اس پر اکتفانہ کیجئے، اب آپ کو دوسرا سماں جزاۓ حق بھی اس کے ساتھ شامل کر  
لینے ہیں ۹

اس کے بعد ایک موقع پر طریق تبیخ کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ اس سلسلہ میں ابیر  
جماعت نے جملہ یوں انٹہار خیالی کیا:-

### طریق تبیخ

جہاں تک تبیخ مذکوٰ کا تصدق ہے عام طور پر سہماں کی جماعتیں تشدید سے  
کام لیتی ہیں اور تندتی جذبات اور مناظر انداد و اوقایع اور تمیزی زبان کے مظاہروں سے  
لوگوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے مذکوٰ کی تبیخ کے لیے یہ طریقہ  
مناسب نہیں ہے۔ اس معاملہ میں بے حد صبر سے کام لیتے کی مزدودت ہے۔ یہ  
تحریک و تقریری منظر سے اور جیسیں جو عام طور پر مرجح ہیں ان میں مبنی غیر محسوس  
طور پر غضب النفس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور محسوس تک نہیں کرتا کہ میں خود اپنے  
جو بُنفصب العین کی جلوں پر کھڑا ارکھ رہا ہوں۔ بنخلاف اس کے ہمیں ایک  
ڈاکٹری طرح کام کرنا ہے جو آخر دم تک کوششی کرتا ہے کہ پھر عضو تند رست ہو  
جاستے اور اگر اسے کام کر جنم ہے الگ کرتا ہے تو اس وقت جب کو دوسری  
تلہم تدایر کو آنچکنے کے بعد اس کی مدد اپنے سے مایوس ہو جاتا ہے، یہاں  
یہ حال ہے کہ ہمارے ڈاکٹر سے پہلے پیار عضو کو کام کر جیکنے پر تیار ہو جائتے  
ہیں۔

یاد رکھیے کہ یہ عوام کا جواب اپ کے گرد پھیلا ہوا ہے ان میں سے جو لوگ

کفر و شرک یا فتن کے مردیں ہیں ان کا علاج غصہ اور تلمی سے کرنے کے بجائے صبر اور  
ہمدردی سے کرنا ہے۔ ان بیمار اعضاء کو معا کارٹ کر نہیں پہنچیں دینا ہے بلکہ ان  
پر تمام دوسری بہتر تباہی کو آنہ دینا ہے۔

عوام کی معذوری کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ان لوگوں میں بہت سے مشرکانہ  
عقائد اور سوچ خود مذہبیت ہی کے مقدس دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ یہی  
دجھے ہے کہ ان کی اصلاح کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس جہم کو صبر و تحمل ہی  
سے بکریا چاہکتا ہے۔ حرب میں بھی یہی حالات تھے اور دہلی بھی ٹھنڈے طریقوں  
سے تسلیخ کا کام کیا گیا۔<sup>۴</sup>

# پہلی باقاعدہ نشست

(۴ مارچ ۱۹۷۳ء بعد مغرب)

پروگرام کے مطابق پہلی نشست اسی روز نمازِ مغرب سے لے کر نمازِ عشاء تک منعقد ہوتی۔ اس نشست میں امیرِ جماعت نے اپنی تقریر میں جماعت کے کام اور اس سے متعلق ضروری مسائل پر مفصل تبصرہ کیا۔ یہ تبصرہ بالآخر کام و کاشت تھا۔ اس کا مقصد نہ تخلفین کو موبہب کرنا تھا اور نہ رفقاء کے چند باتوں کو برائیگزینٹ کرنا تھا، بلکہ اس تقریر سے جماعت کو اس کے کمزور پہلوؤں پر متوجہ کیا گیا تاکہ لوگ ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ تقریرِ ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

## تقریرِ امیرِ جماعت

خطبہِ مسنونہ کے بعد فرمایا۔

### ہمارے اجتماعات کی نوعیت اور غرض

حضراتِ جیسا کہ آپ نے خود بھی اندازہ کیا ہو گا، ہمارے اجتماع کی نوعیت اصطلاحی جلسوں سے بالکل مختلف ہے۔ جلسوں اور کانفرنسوں میں نیا رہ تقریری

ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نظر سے بلند کیے جاتے ہیں لیکن اس نوعیت کی کوئی چیز  
 یہاں نہ ہوتی نہ کبھی ہرگی۔ ہمارے ان اجتماعات کے انعقاد کی اصل خواص ہنگامہ رائی  
 نہیں ہے اور نہ توجہاتِ عام کا اپنی طرف کیا چنان مقصود ہے بلکہ عرض صرف یہ ہے  
 کہ ہم ایک دوسرے سے واقف ہوں، باہم قریب تر ہو جائیں، آپس میں تعاون  
 کی بیانیں نکالیں، صاحب امر اپ سے اور اپ صاحب امر سے شخصاً واقف  
 ہوں اور اسے آپ کی تروں اور صلاحیتوں کا ثبیک ٹھیک اندازہ ہو تو کہ وہ آپ  
 سے منظم کام لینے کی کوشش کرے، وہ فریق ہم اپنا اور اپنے کام کا جائزہ لیتے  
 رہیں، اپنی خایروں اور کوتاہیوں کو بھیں اور انہیں دور کرنے کی خلکریں اور  
 باہمی مشوروں سے اپنے کام کو ٹھیک بڑھانے کی تحریری سوچیں عرض ہمارے یہ  
 اجتماعات اپنے اندر عملی روح رکھتے ہیں، ان میں جسموں کی نوعیت کی کوئی  
 چیز نہ آپ پاسکتے ہیں نہ آپ کو اسے پانے کی خواہش کرنی چاہیے۔ اگر ابھی  
 تک جسمہ بازی کی پڑائی عادتوں کا پھر اثر آپ میں موجود ہم اور ان چیزوں کی  
 کوئی تشنگی آپ اپنے اندر پاتتے ہوں تو اسے بھی نکالنے کی کوشش کیجئے۔  
 ان ہنگاموں میں فی الواقع کچھ نہیں لکھا ہے۔ فضول کاموں میں ذرہ برابر وقت  
 ضائع نہ کیجئے۔ بس کام کی بات کیجئے اور پھر اپنا فرض ادا کرنے میں لگ جائیے۔  
 آج صحیح سے میں مختلف مقامات کی جماعتیں اور اشخاص کے ساتھ تبادلہ تجسس  
 کرتا رہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی غیر ضروری باتیں کر شک خواہش  
 لوگوں میں عود کرائی ہے اور پس اوقات بیان مطابق حقیقت نہیں رہتا۔  
 یہ ایک کمزوری ہے جسے دُور کرنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ جو حادثیں

ہر دن از سے جو پکڑے ہوئے ہیں وہ چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹیں گی مگر انہیں چھوڑنے کی طرف آپ کی توجہ اور سی فردوں کی ہے۔

### اجتماعات میں صافری کی اہمیت

ابتدئے مکمل مختلف مقامات پر جا کر جو کپڑیں نہ دیکھا اور باہر کی اطلاعات سے جو اندازہ لگایا اور اُج آپ حضرات سے فرد افراد اور جماعتیں تبارہ تغییرات کر کے جو صدر مرات حاصل کیں ان کی بنابری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتہائی احتیاط کے باوجود ایک اچھی خاصی جماعت ہمارے نظام میں ایسی داخل ہو گئی ہے جسے فی الواقع اس کام کے کوئی گھری دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی کے اس خداونکی نیاں علامت یہ ہے کہ یہاں اجتماع کے لیے دعوت حامدی گئی تھی اور اعلان کیا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ارکان شرکیہ ہونے کی کوشش کریں، مگر بہت سے ارکان کسی عذر متعقول کے بغیر نہیں آئے، بلکہ بہت سوں نے عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے لیے ان کے معمولی کام، ان کے ردودِ ردود کے مشاغل ان کے خانگی امور، ان کے دنیوی مفادات سے بڑھ کر اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ جماعت کی پکار پر بلیک کہیں اور اسی بنابر وہ غیر اولیٰ الفاظ ہونے کے باوجود بہیں رہ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے بہت سے رفقاء کو اس کام سے حصیقی دلچسپی دلیلی نہیں ہے۔ اگر فی الواقع وہ جانتے کہ یہ اجتماع کیا صنی رکھتا ہے اور جماعت کی پکار سے ان پر کیا لازم آ جاتا ہے اور جو جہدا انہوں نے اب اپنے رب سے کیا ہے اس سے کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں تو وہ اپنے بڑے سے بڑے دنیوی فائدے سے اور سخت سے سخت مشغولیت کر بھی

یہاں کی حاضری پر ہرگز ترجیح نہ دیتے۔ جب اُج ان کا یہ حال ہے تو کیا اُمید کی جاسکتی ہے کہ کل کوئی بڑی ہم سامنے ہوا وہ ستم انہیں پچاریں تو وہ ہماری پکار پر شریک کہیں گے۔ نظام جماعت سے مغلک ہو جانے کے بعد آدمی کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جماعت کی پکار سن کر دوڑ پڑے اور سارے کام چھوڑ دے اس سے مشتمل صرف وہ حالات ہیں جن میں خدا اور رسول نے خود رخصت دی ہے ان حالات کے سوا باقی تمام حالات میں جماعت کی شرکت کے لیے دوسری ہر مشغولیت سے قطع نظر کر لینا لازم ہے۔ جب تک ارکانِ جماعت میں یہ کیفیت پیدا نہ ہوگی، نظام جماعت بالکل ہے جان رہے گا۔ کسی شخص کا یہ خیال کر کے بیٹھوڑ ہنا کہ اس وقت کوئی خاص کام نہیں ہے، اجتماع کی کوئی حقیقتی ضرورت نہیں ہے، اگر اس وقت میں شریک نہ ہو تو کوئی تعصیان نہ ہوگا۔ درحقیقت ایک غلط خیال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں سرے سے کوئی کام نہ ہوتا بلکہ آپ کو صرف جمع ہو جانے کے لیے پکارا جاتا تب بھی آپ کو ایک آواز پر جمع ہو جانا چاہیئے تھا، کیوں کہ اس ابتدائی مرحلہ میں یہی بجائے خود ایک اہم کام ہے کہ آپ کے اندر ایک آواز پر جمع ہو جانے کی استعداد پیدا ہو۔ اس دلپن کے بغیر آپ کوں کام تنظیم اور تعاون کے ساتھ کرسکیں گے؟

جمود میں مبتلا ارکان

یہ صریح جس کا اخہار اس اجتماع کے موقع پر ہوا ہے، کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے جو اس وقت رو نہ ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ منفرد مقامات پر ہماری جماعت کے بعض یا اکثر ارکان ہفتہ دار اجتماعات میں شریک نہیں ہوتے یا

شرکیب ہوتے ہیں تو انتظام کے ساتھ نہیں بلکہ وہ گندے سے دار ہے طریقے سے کوچب دنیا  
 کی کوئی چھوٹی بڑی مشغولیت نہیں نہ ہری اور تفریح کو بھی جی چاہا تو مقامی جماعت  
 کے اجتماع میں اگئے بعض مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا قائد ہری سرنسے سے مسونخ  
 کر دیا گیا ہے اور بہت سے ارکان ایسے بھی ہیں جو جماعت میں داخل ہونے اور  
 جان بوجھ کر خدا سے عہد غلامی نتازہ کرنے کے بعد ویسے ہی ٹھنڈے، بے رُوح اور  
 جامد و ساکن ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ نہ ان کی زندگی میں کوئی تغیر و انتقال ہوا،  
 نہ جاہلیت کے ماحول سے ان کی کوئی جگہ ٹھنی، نہ دعوت الی اللہ کے لیے کوئی  
 سرگرمی ان میں پیدا ہوئی اور نہ ہم سفر فدیقوں کے ساتھ وابستگی ان کے اندر پہنچی گئی  
 حادث نکلے ہم نے ابتداء میں جماعت قائم کرتے وقت بھی کہہ دیا تھا اور اس کے بعد بھی پادر  
 پار کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کثرت تعداد کی نمائش کرنے کے لیے ارکان کی فضولی  
 بھرتی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں وہ فرہی مطلوب نہیں ہے جو جسم کو طاقت و رہنمائی  
 کے بجائے اٹا بوجبل بنادے، ہمیں صرف ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں نی الواقع  
 پچھر کرنا ہوا درج کسی خارجی دباؤ سے نہیں بلکہ ایمان کے اندر ولی تقاضے سے خدا  
 کے دین کو قائم کرنے کی صورت ناچاہتے ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان پرے درپے  
 تصریحات کے باوجود اس قسم کے لوگ ہمارے اس نظام میں بھی داخل ہو گئے جو اس  
 سے پہلے بعض مسلمانوں کے گردہ سے متعلق ہونے ہی کونجات کے لیے کافی بحث  
 لیئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان سے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کو یہی پچھر کرنا نخانہ اس  
 غریب جماعت کو خراب کرنا کیا ضرور تھا۔ آپ کو اگر نی الواقع اس نصب العین  
 سے ہمدردی تھی جس کی خدمت کے لیے ہماری یہ جماعت بنی ہے اور اسی ہمدردی

نے آپ کو ہم سے تعلق پیدا کرنے پر آمادہ کیا تھا، تو آپ کی ہمدردی کا کم سے کم تھا  
یہ ہزاں چلیے ٹھاکر آپ اس جماعت کو خراب کرنے سے پر ہیز کرتے اور وہ بیماریاں  
اسے خلائق کے بھائیوں کی وجہ سے سماں مدت پاتے دراز سے کوئی بیگ کام نہیں کر سکے  
ہیں۔

### جماعت سے طیبہ ہو چوایے لوگ

اس سے بھی زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ پچھلے دو سال کے وولان میں  
متعدد اصحاب ہمارے نظامِ جماعت سے الگ ہوتے ہیں اور یا یک ڈستینیات کے  
ساتھ یا صوب کے انہاں علیحدگی نے رجسٹریشن کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آپ  
چند تھیں مگر جو شخص بھی ہر دو صورت کا دار سے رافت ہے اس بات کو جانتا ہے  
کہ ہم نے جماعت میں یہی سے پہلے ہر شخص کو سوچنے سمجھنے کا پورا پورا موقع دیا ہے  
وہی کو اور اس کے مقصدیات اور م盱ال بات کو اپنے مقصد اور اس کے حوالے کے طریقے کو  
اپنی طرح مکھوں کر بیان کیا ہے۔ پھر داخلہ جماعت کے موقع پر بھی یہی ایک ایک شخص کے  
سمنے واضح طور پر اُن ذمہ داریوں کو پیش کر دیا ہے جو توحید و رسالت کے شعوری اقرار  
سے اس پر عائد ہوتی ہیں اور اس تصریح کے بعد ہر امیدوار رکنیت سے دریافت کیا ہے  
کہ آپ اور اس اقرار کے ذریں کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے برقناو غبست یہ بار اٹھانے  
کے لیے تیار ہے؟ اس طرح ہر اشتباہ والتباس اور ہر خلط فہمی کے بغیر جن لوگوں نے  
اقرار کیا صرف وہی جماعت میں یہیے گئے ایسے سوچنے سمجھے اور پچھے تھے اقرار کے بعد  
نظامِ جماعت سے کسی شخص کے الگ ہونے کی اگر کوئی مقول صحت ہو سکتی تھی  
تو وہ یہی تھی کہ وہ ہم میں نفاق کی بوجھ سے کر کے یا ہمارے نظام میں کوئی ناقابلِ علاج

کمزوری پا کر ہم سے الگ ہوتا اور پھر ہم سے زیادہ بہتر طریقہ سے زیادہ تیز فتاری کے  
ساتھ اُس نصب العین کی طرف پیش قدمی کرتا جس کو اس نے خوب ٹھنڈے دل  
سے جان بوجھ کر اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا تھا اور اس صورت میں بعید نہ  
تھا کہ اس کو اپنے سے اگے پا کر ہم خود اس سے جاتتے میں یہاں جو صورت حال  
دیکھنے میں اگر ہی نہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پورے شعور کے ساتھ جلد بازی  
میں نہیں بلکہ خوب سوچ بھجو کر ہم سے نہیں بلکہ اپنے خدا سے اقرار کیا تھا وہ جماعت  
سے الگ ہوتے اور الگ ہو کر ان میں سے بعض ساکن و جامد ہو گئے، بعض ان  
گروہوں کی طرف پڑتے گئے جن کے متعدد وہ کھٹتے تھے کہ ان کے طرافقیوں کو خلط پا  
کر اور ان سے مایوس ہو کر وہ علی وجہ الحبیرت ہوا وہ راستے ہیں اور بعض نظامِ نژادیے  
پڑتے کو جو دینداری اور پابندی شریعت انہوں نے اختیار کی تھی اور اخلاقی اصلاح کے  
جو اثرات قبول گئے تھے ان کے بھی بیشتر حصہ پر خلط نسخ پھر دیا اور وہی سب کچھ کتنا  
شروع کر دیا جو پڑتے کرتے تھے۔ چند اصحاب کے اندر رجحت کی شدت کا یہ حال دیکھو  
رہا ہوں کہ نماز تک کے تارک ہو گئے ہیں، جن حرام چیزوں سے پرہیز کرنے لگے تھے  
ان میں پہلے سے بھی کچھ زیادہ بستلا ہو رہے ہے ہیں اور معروف اخلاقی ذمہ داریوں تک  
سے بے پرواہ رہتے جاتے ہیں میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ ان حالات کو دیکھو  
کر مجھے کس قدر رنج ہوتا ہے۔

## رجحت اور کسر و فہری کے اب

ہمیں سوچا چاہیے کہ ان سر و فہروں، ان عہد فرموشیوں اور ان رجھتوں کے

حقیقی اسباب کیا ہیں۔

### پہلا سبب

میرے نزدیک پہلی اور بنیادی خرابی یہ ہے کہ جس قوم میں کام کرنے کے لیے  
ہم اٹھے ہیں، صدیوں کے مسلسل اخطا طے نے اس کے اخلاق کی جڑیں کھو گئی کر دی ہیں۔  
اس میں کیکڑی وہ طاقت بہت ہی کم باقی رہ گئی ہے جس کی مفہومی طبقہ پر اٹھنے پر  
مستغل ارادے، ثابت عزم اور بھروسے کے قابل ہبہ و میثاق قائم ہوتے ہیں۔ اس  
میں مدلت ہائے دراز سے یہ مکر دری پرورش پار ہی ہے کہ ایک چیز کو حق جانیں اور  
دل سے اسے حق نہیں مگر اس کے لیے کوئی قربانی گوارا نہ کریں، نہ قوت کی، نہ مال  
کی، نہ خواہشات نفس کی، نہ اپنے مرغوب انکار و نظر نایت کی، نہ اپنے چاہیت کے  
اذواق اور دلچسپیوں کی اور نہ کسی اور چیز کی۔ انہیں وہ حق پرستی تو بہت اپیل کرتی  
ہے جس میں حق کو زبان سے حق کہنا اور اس پر فعلی عقیدتوں کے پھول پھاڑ کر نہ اور  
اس کے لیے چند نمائشی کام کر دینا کافی ہو اور اس کے بعد انہیں اس حق کے خلاف  
ہر طرح اپنے کار و بار اپنے ادارے اور اپنی زندگی کے سارے معاملات چلانے  
کی پُردی آزادی حاصل رہے۔ اسی لیے وہ نام نہاد نہیں ہے بلکہ ان راستوں کی  
طریقہ خوشی پک جاتے ہیں جن کی دینداری اور سی دھمل کا سارا ادارہ اسلام اور  
چاہیت کی مصالحت (کوئی مخالفت نہیں) پر ہے لیکن ایسی حق پرستی  
ان کے لیے ایک ناقابلِ تحمل یا گراں ہے جو کفر و اسلام، حق و باطل اور اطاعت  
بغادرت کے درمیان دو ٹوک فیصلہ رچاہتی ہو اور جس میں ہر اس شخص سے حق کو گانے  
کا اقرار کرے۔ اور باطل کا انکار کرنے کا مطالبہ کیا جائے جو کلمہ طعیۃ پر ایمان لانے  
اور مسلمان ہونے پہلا مطالبہ یہ ہو کرو یہ یک شوہر جائے اور پھر وہ مطالبہ یہ ہو کر جسی

چیز کو اس نے حق مانا ہے اس کے نیے اپنی پوری شخصیت کو تجویز کے اور عمر بھر کر کے لیے تجویز کے وقت کی، مال کی، خواہشاتِ نفس کی مغروبات اور وہیں کی، املاک اور تناول کی، توقعات اور امیدوں کی، گھر سے سے گھر سے تعلقات کی، قوتیں اور وہیں کی، بغرض ہر قسم کی قربانیاں گوارا کرے اور ایک دو دن کے لیے نہیں، چار چھوٹے جیسے کے لیے نہیں، کسی مقررہ مدت کے لیے نہیں، بلکہ جب تک جتنا ہے اُس وقت تک گوارا کرنا ہے۔ آپ اس گھنے گز رے زمانہ میں بھی ایسے مسماں بہت پائے ہیں جو خوشی خوشی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے سینے پر گولیاں کھایں گے، مردوں پر لامبیوں کی بارش سہیں گے، جیل کی سختیاں برداشت کر لیں گے یہ سب ان کے لیے چھوٹے اور بھئے کام ہیں، جنہیں بہ آسانی برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی پوری زندگی کو ایک خابطہ میں کس دینا، عمر بھرا کی مقصد کے پیچے صبر سے کام کیے چکے جانا، جیتے جی اپنی خواہشات پر ایک براہیں لگاتے رکھنا، اپنی عادتوں اور ذہنیتوں کو بدل دانا اور کسی خارجی دباؤ کے بغیر اخلاقی ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور نباہنا۔ یہ فی الحقيقة ان کی برداشت سے بہت زیادہ بحاجتی پڑ جو ہے جس کی سہاران کے لیے سخت مشوار ہے۔ یہ نمائشی بیکاموں میں ایک ہرگزار سکتے ہیں، مگر کسی ایسا طلب عہد کو سال دو سال بھی بخشکل نباہ سکتے ہیں ان کے ارادے کے کمزور ہرچکے ہیں ان کی قوتِ فیصلہ دھیلی پڑ گئی ہے، ان میں عادات اور خواہشات کے انفصال اور اعتقاد و عمل کی مطابقت اور کسی نظام کی پابندی میں مسلسل کام کرنے کی قوت باقی نہیں رہی ہے۔ ان کی مثال اس جنگلی گھوڑے کی سی ہے جو روز پیدائش سے آزاد پھرنے کا عادی رہا ہو کسی گھاری میں جب تک کراہی مقررہ راستہ پر سیدھا چلنا

کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے چھوڑے کو اگر کسی طرح رام کر کے باندھ بھی لیا جاتے تو بہت جلدی وہ پند شوں سے اکٹا نے لگتا ہے حتیٰ کہ ایک دن رسی تڑا کر ایسا ہی بھاگتا ہے کہ پہلے سے بھی کچھ زیادہ ووزن کل جاتا ہے۔

## دوسرے اسباب

دوسری بینا وی مکروہی جسے میں روز بروز زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرتا جادیا ہوں، یہ ہے کہ ہمارے عوام تو دین کے فہم اور اس کی روح کے اور اس سے محروم ہیں، ہی مگر ہمارے درمیان جو لوگ مذہبی میلان رکھنے والے ہیں وہ اس معاملہ میں کچھ اس سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ مخصوص اور نیک لوگوں تک کا یہ حال ہے کہ وہ دین داری اور پیشہ ویں داری کے فرق کو نہیں جانتے، دین کی حقیقی قدر دن کو انہوں نے دوسری قدر دن سے بدلتا ہے یا خلط ملطخ کر دیا ہے، جو چیزیں دین میں نہایت اہم ہیں جوکہ اساسی اہمیت رکھتی ہیں وہ ان کی نگاہ میں ہماری تمام کوششوں کے باوجود مخصوص ایک سطحی سخا، اہمیت حاصل کر سکی ہیں لیکن کہ ایک طویل مدت کی تعییم و تلقین سے ان کا انداز غفرنگ کھرا یا ہی بنادیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے جو چیزیں دین میں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں یا کسی قدر رکھتی بھی ہیں تو مخصوص ایک صحنی اہمیت، وہی ان کے نزدیک بدار دین ہیں کیونکہ فن دین داری اور پیشہ ویں داری نے ان کو یہی مرتبا دیا ہے۔ عالم ہر کوئی یا متوسطین، بہر حال ان کے درمیان کم ہی انسخاصل ایسے پاسے جاتے ہیں جو صحیح دینی بصیرت کی بناء پر جانتے ہوں کہ خدا کے دین میں کون سی چیزیں کس درجہ میں مطلوب ہیں، کس چیز پر کتنا زور دینا چاہیتے اور کون سی چیز کس چیز کی خاطر چھوڑنی جا سکتی ہے۔ یہ اختلاف جو قدر دن کے تناسب میں ہمارے اور عام

ندہی میلان رکھنے والے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بھی بہت سی سردمہروں اور جھتوں کا ایک بلا سبب ہے۔ مگر ہم مجبور ہیں کہ دین کو خوب جان کر اور سمجھ کر ہم نے اقامتِ دین کا جو نصب العین اپنے سامنے رکھا ہے اس کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے اور اگر لوگوں میں مرگری ہیدا کرنا، یا پلٹنے والوں کو رجعت سے باز رکھنا اسی پر موقوف ہے کہ ویسی تقدروں کے حقیقی تناسب کو بدال دیا جائے تو نہ ہمیں ایسی مرگری مظلوم ہے اور نہ کسی پلٹنے والے کی پاگشت، کامنا من کان۔

### تپیسا سبب

ایک اور اصولی سبب ان رجعتوں اور سردمہروں کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس جماعت کی رکنیت اور عام انجمنوں اور پارٹیوں کی رکنیت کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ابھی پوری طرح محسوس نہیں کیا ہے کہ اس جماعت کی تحریکت کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ ابھی تک اس گمان میں ہیں کہ یہ بھی کوئی انجمن ہے جس میں کسی ادنی وجہ کشش کی بنابر شامل ہو جانا اور شامل ہو کر وچھپی نہ لینا اور پھر کسی چھوٹی یا بڑی وظیفہ پسندیدگی کی بناء پر امک ہو جانا، اُو می کے دین و ایمان سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ حالانکہ فی الحقیقت اس جماعت کی نوعیت عام انجمنوں اور پارٹیوں کی نوعیت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جماعت تعالیٰ دین حق کی اقامت کے پیسے قائم ہوئی ہے۔ اس کا نصب العین وہی ہے جو قرآن کی رو سے اسلام کا حقیقی نصب العین ہے۔ اس کے پیش نظر وہی کام ہے جس کے پیسے انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھی گئے تھے۔ اس میں داخل ہوتے وقت ہر شخص سے پورے شعور کے ساتھ وہی عہد دیا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سنائیں

کتاب میں معاملہ بیع سے تعبیر فرمایا ہے، اِنَّ اللَّهَ أَشْرَقَ لِمَنَّا مُؤْمِنُونَ أَنفُسَهُمْ  
وَآمُوْلَهُمْ يَبْيَنُ نَفْسُهُمْ بِجُنَاحَتِهِ ایسی جماعت میں داخل ہونے کا جو شخص ارادہ  
کرے اسے پہلے اپنی طرح جائز پڑتا کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا فی الحقيقة اس  
کی یہی غرض اور یہی نوعیت ہے اور یہی کام اس کے پیش نظر ہے؟ اگر تحقیق سے  
اس کو ان امور پر اطمینان حاصل نہ ہو تو صرف سے سے جماعت کی ثركت ہی خلط ہے  
یہیں اگر اسے اطمینان حاصل ہو جائے اور وہ یہ یقین رکھتے ہوئے داخل جماعت ہو  
کہ اس جماعت کی غرض و غایت یہی ہے جو درستوریں بیان کی گئی ہے، اور اس  
یقین کی بنا پر وہ اللہ سے خوب سوچ سمجھ کر بیع کا معاهدہ کرے تو اس کے بعد آپ  
خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی ثركت اور ایسے معاهدہ بیع کی یہ حیثیت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ  
ایک کوٹ ہے جسے جب چاہا پہنچا اور جب چاہا اُمار دیا۔ ادھر قدم پڑھانے سے  
پہلے اپنی واپسی کی کشیاں جلا دیجئے۔ یہ سمجھتے ہوئے اگرے بڑی چیز کہ اب پلٹ کر جانے  
کے لیے کوئی جگہ آپ کے لیے فیض ہے۔ خدا سے عہد باندھنے کے بعد جس جان و مال  
کو آپ بیع چکے اسے اب آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اس معاهدہ کے ساتھ ہی آپ  
سر و حرث کی بازی لگاچکے ہیں۔ اب آپ کو جان رکھ کر یہ کام کرنا ہے۔ خود اس راہ پر  
چلنا ہے اور دوسریں کو اس پر چوتا ہے۔ کوئی خرابی رونما ہوتی نظر آتے تو بھاگنے کی  
غور نہ کیجیے بلکہ تم از کم اسی جذبہ کے ساتھ اُسے دور کرنے کی نکار کیجیے جس طرح آپ کے

لئے ترجیح دھیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے  
بدلے خرید لیے ہیں۔ (المتوہہ: ۱۱)

گھر میں آگ لگ جاتے تو اسے بچانے کی کوشش کریں گے۔ لہنگے والا اگر نہ چلے تو پچھے سے نیڑک نہ جائیتے بلکہ یا تو اسے چلنے پر جھوک کیجئے یا اُسے ہٹا کر چینک دیجئے اور خود آگے بڑھنے لے یا اگر آپ اس کام میں دعپسی نہ لیں گے، یادِ وقت، مال، محنت اور دل و رہائش اور جسم و جان کی قوتیں اس راہ میں صرف کرنے سے جو چراہیں گے، یادوں سے کاموں کو اس کام پر مقدم رکھیں گے تو اپنے خدا سے بے وفائی کریں گے۔ آپ کا عہد کی اشان سے نہیں، خدا سے ہے۔ نیڑکت کے ذلت جو عہد آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنے اس سب کچھا اور خود اپنے آپ کو خدا کے ہاتھیز پچھے ہیں۔ اب آپ کی ہر چیز پر چلا اور مقدم حتیٰ خدا اور اس کے کام کا ہے۔ باقی تمام چیزیں اس سے فخر ہیں۔

یہ ساری باتیں میں آپ سے اس یہے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کام کی عملت کو اپنی طرح محسوس کر لیں جو اس وقت ہمارے ملٹھے ہے۔ مجھ پر اکثر تقاضے ہوتے ہیں کہ تم جلدی سے کوئی بڑا اقدام کر ڈالو، لیکن ابھی میں نے جو مکروہیوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے ان کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود اگر میں کوئی بڑا اقدام کر دیجھوں تو جھوک سے بڑا نادان کوئی نہ ہو گا۔ سیرت و اخلاق کی ان خامیوں اور فہم و نظر کی ان کو تاہیوں کے ساتھ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا جاسکتا، کجا کہ وہ کام جو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے نظام زندگی میں جو ہمہ گیر انقلاب پیدا کرنا ہمارے پیش نظر ہے اس کے لیے ایک اور ہی قسم کی ذہنیت اور سیرت درکار ہے جسے ڈھاننے اور تیار کرنے کا کوئی انتظام ہمارے ہاں ایک مدت دراز سے نہیں ہوا ہے۔ جو سانچے ہمارے ہاں مددوں سے بننے ہوئے ہیں وہ اخلاق و عادات اور ذہنیتوں اور سیرتوں کو کسی اور

ڈھنگ پڑھاتے رہے ہیں جو اس کام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا قبل اس کے کرہم اپنے پیش نظر کام کی طرف کوئی بڑا قدم اٹھائیں۔ ہمیں ان بو سیدہ سانچیں کو توڑنا ہے اور نہایت صبر کے ساتھ پہم سعی و جہد سے نئی سیر تھیں، نئی ذہنیتیں، نئی عادیتیں اور نئی اخلاقی صفات پیدا کرنی ہیں، جو حقیقتہ نئی نہیں بلکہ سب کی سب پر ایں ہیں مگر بد قسمتی سے آج ہمارے لیے نئی برگتی ہیں۔ خوب بخوبی بخیل کسی فاسد و مفسد گروہ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی زمین کے انتظام اور اپنی خلق کی امت و پیشوائی کے منصب پر قابض نہیں ہونے دیتا جب تک دنیا ایک صارع و مصلح گروہ ( منتشر افراد نہیں بلکہ منتظم گروہ ) سے بالکل ہی خالی نہ ہو جائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سفت کے مطابق قیادت و رہنمائی کے منصب اور زمین کے انتظام میں کوئی اصولی تغیری اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایک امتہ دست، ایک خیواں مतہ موجود میں نہ آجائے، جو شہداء و شہزادوں انسان ہونے کے لائق ہو، جس کا جینا اور مزنا خالص اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو۔ اور جو اپنی اخلاقی صفات کے اعتبار سے تمام دنیا کی امتوں پر فوقیت رکھتی ہو۔

### دعوت حق ایک عظیم ازمائش ہے

اس موقع پر میں ایک بات نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں وو یہ ہے کہ اس قسم کی ایک دعوت لا جیسی کہ ہماری یہ دعوت ہے، لسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اس کرا یک بڑی سخت ازمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک حق کے بعض منتشر اجزا اور باطل کی امیزش کے ساتھ سامنے آتے رہیں، ایک مسلمان قوم کے لیے ان کو قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے۔

اور اس کا عذر مقبول ہوتا رہتا ہے۔ مگر جب پُر احت بال محل بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جاتے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس خدمت کو انجام دیں کے لیے اٹھ کھڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی عرض ہے، یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے۔ ایسی صورت میں ان دراہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش اس قوم کے لیے باقی نہیں رہتی۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس دلوں فیصلہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو موصیل دے اور اس نوعیت کی کیے بعد دیگر سے کئی دعوتوں کے اٹھنے تک دیکھتا رہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا دروش اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال اس دعوت کی طرف مذہب مورثے کا انجام آخر کار وہی ہے جو میں نے اپنے عرض کر دیا ہے۔ غیر مسلم اقوام کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ لیکن مسلمان اگر حق سے منہ مورثیں اور اپنے مقصد و جو دی کی طرف صریح دعوت کو سن کر اٹھے پاؤں پھر جاتیں تو پیدا جرم ہے جس پر خدا نے کسی نبی کی امت کو معاف نہیں کیا ہے۔

اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے اس لیے کم از کم یہاں کے

لئے متحده ہندوستان مراد ہے جو ۱۹۴۷ء میں پاکستان اور بھارت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں جماعتِ اسلامی پاکستان اور بھارت میں جماعتِ اسلامی ہند، پاکستان کر رہی ہے۔

مسلمانوں کے لیے تو آزمائش کا دہ خوفناک لمحہ آہی گیا ہے، رہے دوسرے ممالک کے مسلمان تو ہم ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کوشش میں کامیابی ہو گئی تو جہاں جہاں یہ پہنچے گی وہاں کے مسلمانوں بھی اسی آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ میں یہ دعوے کرنے کیلئے تو گوئی بنیاد نہیں رکھتا بلکہ آخری موقع ہے جو مسلمانوں کو فل رپا ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی کچھ اور موقع مسلمانوں کے لیے مقدر ہوں۔ میکن قرآن کی بنیاد پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ وقت ہے ایک نازک وقت۔ یہاں کے مسلمانوں کے سامنے اس وقت دو قسم کی دعوییں ہیں۔ ایک طرف ہماری یہ دعوت ہے جو مسلمانوں کو شیکھ اس کا جمکنے لیے بُلا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلم جماعت کی تاسیس و تشکیل کی واحد عرض قرار دیا ہے اور دوسری طرف وہ دعوییں ہیں جن کے پیش نظر مسلمانوں کے دنیوی مفادات کی خدمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان دو مقابل پکاروں میں سے دوسری پکار کی طرف مسلمانوں کا فوج درفعہ پہنچانا اور پہلی پکار کو امت کی عظیم اکرمیت کا بہرے کانوں سے مُسننا اکابر امت اور علماء و مشائخ کا اس سے بے اغذیٰ برہنا یا اس کی گھلی یا چھپی مخالفت پر اترانا، اور ایک گروہ قبیل کا اس کی طرف بڑھنا بھی تو رُکتے اور بھجھتے اور پس و پیش کرتے ہوئے بڑھنا، میرے نزدیک ایک نہایت بڑی علامت ہے اور ایک عظیم خطرہ ہے جس میں یہ مسلمان قوم اپنے آپ کو ڈال رہی ہے۔ خوب جان لیجئے کہ اگر اس وقت اس قوم میں سے کچھ ادمی بھی ایسے نہ لکھے جو امۃ وسط اور شہداء اللہ پیش کے مقابل ہوں اور وہ خدمت انعام دے سکیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی

زین پر ایک صد بخ و مصلح گروہ کو کربلا کی چاہتا ہے تو پھر:

قَسْوَنَ يَا أَيُّهُ اللَّهُ يَقُولُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ أَذْلَلُهُ  
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي  
سَيِّئِ الْأَعْمَالِ إِذَا يَخْافُونَ نَوْمَةً لَا تُبْرِئُهُمْ ذَالِلَةُ فَضْلُ  
اللَّهِ يُجْوِتُهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ۔

(المائدہ: ۵۲)

”بعید نہیں کہ اللہ کسی دوسری ایسی قوم کو سے اُسے جو اللہ کو  
محبوب ہوا اور اللہ اسے محروم ہو، جو اہل ایمان پر نرم اور کفار پر  
سخت ہو، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے اور کسی ملامت کرنے والے  
کی ملامت سے سے نظر سے یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے،  
جس کو چاہتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا در علیم ہے۔“

اپنے حضرات یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اپنے دراصل اُمّۃ و سط  
بننے کے امیدوار ہیں۔ اپنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مقام بلند کو حاصل کریں۔ اتنے بڑے  
منصب کی امیدواری کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور پھر نہ اس کی عملت کو محسوس کرنا،  
نہ اس کے لیے اپنے اپنے اپنے کو تیار کرنا، ایک عظیم انسان بھے خبری ہے اور اس  
ستے بڑھ کر بے خبری یہ ہے کہ ایک طرف تو اپنے ان کم سے کم صفات سے بھی  
ایک ہمک متصف نہ ہوئے ہوں جو اس کا عظیم کے لیے ضروری ہیں اور دوسری طرف  
اپنے تھانداریں کر فوڑا ہی کوئی بڑا قدم اٹھا دیا جاتے۔ کیا اپنے آنا نہیں سمجھتے  
اور اس سے ڈرتے نہیں کہ اگر اپنے نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس کے لیے ضروری

استعداد اپنے اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے تو اپ منہ کی حاکر پا ہوں گے اور اس را وہ میں پچھے ٹھنڈا فسراڑتی ترقیت ہے جو خدا کی شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے۔

## اس دعوت کے کام کیلئے جو شخصی اور جماعتی اوصاف اصراری ہیں

اب میں مختصر طور پر اپ کو بتاؤں گا کہ وہ کم سے کم ضروری صفات کیا ہیں جو اس دعوت کے لیے کام کرنے والوں میں ہونی چاہیں۔ دوسرا وہ جو ایک صالح جماعت بنانے کے لیے ضروری ہیں اور تیسرا وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ناگزیر ہیں۔

### شخصی اوصاف

(۱) شخصی اوصاف میں پہلا اور بنیادی وصف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس سے رکرپھے اسے مسلمان اور خدا کا مطیع فرمان بناتے۔ یہ وہی بات ہے جسے حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ:

الْمُجَاهِدُ مَنْ بَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ۔

حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے

کشمکش کرے۔

یعنی قبل اس کے کہ اپ بہر کی دنیا میں خدا کے باغیوں سے مقابلہ کے لیے نکلیں اس بااغی کو مطیع بنائیے جو خدا اپ کے اندر موجود ہے اور خدا کے قانون اور اس کی رضا کے خلاف چلنے کے لیے ہر ذمۃ تقاضا کر ثار رہتا ہے۔ اگر یہ بااغی اپ کے اندر پل رہا ہے اور اپ پرانا قابو یافتہ ہے کہ اپ سے خدا سے الہی کے خلاف اپنے مطالبے منوا سکتا ہے تو یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے کہ اپ پر وہ باغیوں

کے خلاف اعلانِ جنگ کریں۔ یہ تودہی بات ہوئی کہ گھر میں شراب کی بڑی پیشی ہے اور باہر شرابیوں سے رضاٹی ہو رہی ہے۔ یہ تضاد ہماری تحریک کے لیے تباہ گُن ہے۔ پہلے خود خدا کے آنکھے سر جھکا لیئے، پھر دوسروں سے اطاعت کا مطالبہ کیجیے۔

(۲) چہاروں کے بعد دوسرا درجہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کا اصل مدعا گھر بار چھوٹنا نہیں ہے بلکہ خدا کی نافرمانی سے بھاگ کر خدا کی رضا جوئی کی طرف بڑھتا ہے۔ اصلی ہہا جہر ترک وطن اگر کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے وطن میں قانونِ الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے موقع نہیں ہیں۔ میکن اگر کسی شخص نے گھر بار چھوڑا اور اللہ کی فرمائی داری ہی اختیار نہ کی تو اس نے حماقت کی۔ یہ حقیقت بھی احادیث میں اپنی طرح واضح کر دی گئی ہے۔ بطور مثال ایک حدیث کو لیجئے۔ اخضور سے پوچھا گیا کہ:

**آئی الْمُوْجَرَةٌ أَخْفَلُ يَمَّا سُؤْلَ اللَّهُ عَنْهُ۔**

یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟

جوابِ علا:

**أَنَّ تَهْجُرَ مَا كَيْدَهُ رَبِيعَ**

یہ کہ قرآن چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔

اندر کا باعث اگر ملیع نہ ہو تو اُدھی کا ترک وطن کر دینا خدا کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اُپ حضرات بالہ کی قوتوں سے پہلے اپنے انہوں کی سرکش قوتوں سے رہیے اور احمد طلاحی کفار کو مسلمان بنا نہ سے پہلے اپنے نفس

کو مسلمان بنائیئے۔ اس معنی کو جامع تر الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ حدیث نبی کے مطابق اپنے آپ کو اس گھوڑے کی طرح بنائیے جو ایک کھونٹے سے بند چاہتوں ہے وہ کتنا ہی گھوڑے پھرے بہر حال اُس حد سے آگے نہیں جاسکتا جہاں تک رستی اُسے جانے دیتی ہے۔

**مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْمُغَرَّسِ فِي الْخَيْرَيَةِ  
پَجُوُلُ شَهَّ يَذْجُجُ إِلَى الْخَيْرَيَةِ۔**

ایسے گھوڑے کی حالت آزاد گھوڑے سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو ہر بیدان میں گھومتا ہے، ہر کھیت میں گھُس جاتا ہے اور جہاں ہری گھاس دیکھتا ہے وہیں پوری بے عبری کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پس آپ، آزاد گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر سے نکالیں اور کھونٹے سے بند ہوئے گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔

اس کیفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دُوسرا قدم یہ اٹھائیتے کہ اپنے قریبی ماحول سے جسے میں "ہوم فرنٹ" کہوں گا، وطن اشروع کر دیجئے۔ لگر کے لوگ، اعزہ، دوست اور سوسائٹی جس سے آپ لاگھرا رپڑتے ہے، ان سب سے ایک عملی کشمکش اشروع ہو جانی چاہیئے۔ کش مکش اس معنی میں نہیں کہ آپ اپنے متعلقین سے گشتی رکھیں یا ان سے ٹوٹوئیں میں اور مناظرہ اشروع کر دیں بلکہ یہ کش مکش اس معنی میں ہوئی چاہیئے کہ آپ بجیثیت فرولار بجیثیت جماعت اپنے نصب العین کے اتنے ولداوہ اور اپنے اصول و خواہب کے اتنے پابند ہو جائیں کہ آپ کے گرد میش جو لوگ کسی نصب العین کے بغیر بے اصول زندگیاں بسر کر رہے ہے ہیں وہ آپ کی

پابند اصول زندگی کو گوارا نہ کر سکیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی اولادیں، آپ کے الدین، آپ کے رشتہ دار اور دوست آپ کے روپیہ کے خلاف مراجحت کرنے پر مجبورہ ہو جائیں۔ آپ اپنے شہر میں اجنبی ہو کر رہ جائیں۔ جہاں آپ کسب معاش کے لیے کام کرتے ہوں وہاں آپ کا وجود نہیاں طور پر کھلکھلنے لگے۔ دفتر کی آرام کر سی جس پر بیٹھو کر جاہ و ترقی کے خواب دیکھے جلتے ہیں۔ آپ کے لیے انگاروں کی انگلیٹھی بن کرہ جلتے۔ غرض جو جتنا زیادہ قریبی ہواں سے آٹا، ہی پہلے تصادم شروع ہو جانا چاہیے۔ جس شخص کے گھر میں میدانِ جہاد موجود ہو وہ آخر چند میل کے فاصلہ پر ہی کیوں لڑنے جائے۔ پہلا مرکہ تو گھر ہی سے شروع ہونا چاہیے۔ اب تک جہاں جہاں اس کشمکش کی اطلاعات اُر ہی ہیں وہاں کے لوگوں سے مطمئن ہو رہا ہوں اور جہاں سے ایسی اطلاعات نہیں اُر ہی ہیں وہاں کے لیے بے تابی سے منتظر ہوں کہ ایسی کوتی اطلاع ملے۔

گریمیں بروقت یہ واضح کر دوں کہ یہ ساری کشمکش اس ذہنیت کے ساتھ ہوئی چاہیئے جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیماروں سے کشمکش کرتا ہے۔ دراصل وہ بیمار سے نہیں رفت بلکہ بیماری سے رفتتا ہے اور اس کی تمام ترجیح و جہد ہمدردی کی روح سے برلن ہوتی ہے۔ وہ اگر بیمار کو کڑوی روایتی پلانا ہے یا اس کے کسی عضو پر نشست جاتا ہے تو یہ تمام تراخلاص ہوتا ہے دشمنی نہیں ہوتی۔ اس کی نفرت اور اس کا عفستہ بالکل مرض کے خلاف ہوتا ہے نہ کہ مرض کے خلاف۔ بالکل اسی طرح اپنے ایک گراہ بھائی کو بدایت کی طرف لا سیئے۔ وہ کبھی کسی بات سے یہ عسوس نہ کر سے کہ اسے تحفیر سے دیکھا جا رہا ہے یا براؤ راست اس کی ذات سے دشمنی کی جا رہی ہے، بلکہ وہ آپ کے اندر

انسانی ہمدردی، محنت اور اخوت کو کام کرنا ہوا پاٹے۔ میں نے جماعت درجہنگل کے موقع پر بھی مختصر ایر کہا تھا کہ اصل تبلیغ تقریبی اور تحریری مناندوں سے نہیں ہوا کرتی۔ یہ کام کرنے کے بہت سی اونی طریقے ہیں۔ اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا جنم نہ ہو اور نور نہ ہوں۔ جہاں کہیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ نور نہ گزرا جائے وہ آپ کے طرزِ عمل سے پہچان لیں کہ یہ ہیں خدا کی راہ کے راہی۔ جس طرح کوئی فنا فی الکاظم ہے اُدمی سامنے آ جاتا ہے تو کاظمیت کی پوری تصور پر انکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے اسی طرح آپ ایسے فنا فی الاسلام بن جاتی ہے کہ جہاں آپ سامنے آئیں اسلامی تحریک کا پورا نقشہ واضح ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

إِذَا رُفِدُوا ذِكْرَ اللَّهِ -

میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا فوراً ہو جانا چاہیے۔ یہ تمام تو تدریسجا ہی حاصل ہو گا۔ خدا کی راہ میں جب اپنے ماحول سے پہم آپ کا تقدام ہوتا رہے گا اور آپ ہرآن، ہر لمحہ اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے ہوئے قربانیاں دیتے رہیں گے تو ایک مدت میں جاگر فناستیت کی کیفیت آپ پر طاری ہو گی اور آپ اپنی دعوت کا جنم نہ ہوں یکیں گے۔ اس مقصد کے لیے قرآن و حدیث لاگھری نظر سے بار بار مطالبہ کیجئے اور دیکھیے کہ اسلام کس قسم کا انسان چاہتا ہے اور ان غور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز کے اُدمی تیار کیا کرتے تھے۔ وہ کیا صفات تھیں جو اس تحریک کے کارکنوں میں پہنچے پیدا کی گئیں اور اس کے بعد جہاد کا علم بلند کیا گیا۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مذکی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان تیار کیے

نئے انہیں ہا برس کی تیاری کے بعد میدان میں لا بیا گیا۔ اس تیاری کی تفصیلات معلوم کیجئے اور دیکھتے کہ یہ کس تدریج کے ساتھ ہوتی تھی، اس میں کین صفات کی پر درش مقدم تھی اور کن کی مُخر، کون سی صفات کس درجہ میں مطلوب تھیں اور انہیں کس حد تک ترقی دی گئی تھی اور کس مقام پر پہنچ کر اس جماعت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دنیا کا بہترین گردہ بن گئے ہو اور اس قابل ہو گئے ہو کہ نوعِ انسانی کی اصلاح کے لیے نکلو۔ یہی نوعِ خود اپنی تیاری کے لیے بھی آپ کے حامی ہونا چاہیئے۔

یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ میں صرف دو حدیثیں آپ کی رہنمائی کے لیے پڑ کر دن کا جو سے آپ کو معلوم ہو گا کہ اس کام کے لیے کین صفات کے ادمی دو کاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَأَبْخَفَنَ اللَّهَ وَأَعْطَى اللَّهَ وَمَنْعَ يَنْهَا فَقَدْ

مُسْكُنَ الْإِيمَانَ۔

یعنی اُو می پُورا مومن اُس وقت بنتا ہے جب اُس کی گیشت یہ ہو جاتے کہ اس کی روتی اور دشمنی اور اس کا دیناء، روکنا جو کچھ ہو خالص اللہ کے لیے ہو۔ نفسانی اور دنیوی معلمات اس کے لیے ختم ہو جائیں۔

دوسری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا:

أَمْرَ فِي تَرْبِيَةِ بَنِيَّتِهِ۔

میرے رب نے مجھے نوجوان کا حکم دیا ہے۔

أَنْعَشِيَّةَ اللَّهِ فِي الْسِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةَ۔

گھٹے اور چپے ہر حال میں خدا سے ڈر تار ہوں۔

۲: وَكَلِمَاتُهُ الْعَدَلِ فِي الْفَحْشَىٰ وَالرِّضَا -

کسی پر بہر بان ہوں یا کسی کے خلاف غصہ میں ہوں دونوں صفات میں  
الصفات ہی کی بات کہوں۔

۳: وَالْفَحْشَىٰ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ -

خواہ فقیری کی حالت میں ہوں، یا امیری کی حالت میں۔ بہر حال راستی و  
اعتدال پر قائم رہوں۔

۴: دَأَنْ أَصِلَّ مَنْ قَطَعَنِي -

اور یہ کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے بُراؤں۔

۵: وَامْعَنِي مَنْ حَرَمَنِي -

اور جو مجھے محروم کرے میں اسے بُراؤں۔

۶: وَأَغْفُو مَنْ ظَلَمَنِي -

اور جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔

۷: دَأَنْ يَكُونَ حَمِيَّيْ فِكْرًا -

اور یہ کہ میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو۔

۸: وَنُطْقِي ذِكْرًا -

اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو۔

۹: وَنَظِيرِي عِبْرَةً -

اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔

ان اوصاف مظلوم ہے کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

اک اُمّت پا نہ عروج دت د آٹھی سعیِ اہل فکر۔

یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اور بدی سے روکوں۔

معصوم ہوا کہ نیکی کو پھیلاتنے اور بدی کو ختم کرنے کے لیے جو امت وسط اُشٹے اس کے فرد میں یہ اوصاف ہرنے چاہتیں۔ انہیں اوصاف کے ساتھ یہ فرضیہ ادا ہو سکتا ہے۔ پر نہ ہوں تو ہم کبھی اپنے منصب کے مقتضیات کو پُڑا نہیں کر سکتے۔

### جماعتی اوصاف

پرتو شخصی اصلاح کا پروگرام ہوا۔ اس سے اگے جماعتی حیثیت سے کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف کی صورت میں ہے۔ جماعتی نظر کو مستحکم اور کارگر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ارکانِ جماعت کے درمیان محبت و سہداری ہو، اپس میں حُسنِ غلن ہو، ابے اعتمادی کی جگہ اعتماد ہو، اپس میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت ہو، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کی عادت ہو، خود اگے بڑھیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ اگے بڑھائیں۔ یہ اوصاف ہر جماعتی نظر کے لیے ناگزیر ہیں۔ درست اگر فرد اُس سب روگ اعلیٰ درجہ کی صفاتِ حسنہ اپنے اندر پیدا کر لیں میکن مختلم و مربوط نہ ہوں، اپس میں مقاوم نہ ہوں، ثانیہ سے ثانہ مل کر چل نہ سکیں تو ہم دنیا میں علم بردارانِ باطل کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا غلط نہ ہو کہ شخصی حیثیت سے بہترین انسان ہم میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور کچھ بھی موجود ہیں۔ اور اگر آج دنیا بھر کو ہم چیلنج دے کر کہیں کہ لیے گے کسی کے پاس نہ ہوں گے تو شاید اس چیلنج کا جواب کسی قوم سے نہ دیا جاسکے گا مگر یہ معاملہ صرف انفرادی اصلاح کی حد تک ہے۔ جن لوگوں نے اپنی انفرادی اصلاح میں کامیابی کیا ہے انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ چند سو یا چند ہزار افراد

پر اپنا اثر پھیلا دیا اور تقدیس کی چند یادگاریں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ پر طلاقیہ بڑے کام کرنے کا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا پہلو ان جو بھاری بوجھا اٹھانے اور کئی بھائیوں کو گشتی میں پچھاڑنے کی طاقت رکھتا ہو، ایک مر بودھ رجنٹ کے مقابلہ میں بالکل بے کار ہے۔ اسی طرح ہم یہی سے کچھو گونجی مثال انفرادی تزکیہ کی حیثیت سے اُس پہلوان کی سی ہے جو کسی رجنٹ کا عضو بن کر کام نہیں کرتا بلکہ منقول ایک رجنٹ کو دعوت مبارزت دیتا ہے۔ انفرادی تزکیہ کے لحاظ سے ہماری اپنی جماعت میں بھی ایسے زفقار کی کمی نہیں ہے جن کی حالت پر خود مجھے دشک آتا ہے مگر جہاں تک جماعتی تزکیہ کا تعلق ہے، حالاتِ افسوس ناگ ہیں۔ میں مستقبل قرب میں اس مسئلہ پر تفصیل سے لمحہ کا ارادہ رکھتا ہوں کہ جماعتی حیثیت سے کیا کچھ ذرک کر دینے کے قابل ہے اور اس کی جگہ کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں۔

قرآن میں اس مسئلہ پر اصولِ حدیث مفصل روشنی ڈالی گئی ہے اور حدیث میں اصول کی مکمل تشریحات موجود ہیں۔ پھر سیرتِ نبی اور سیر العصا پر کے مطابعہ سے مطلوبہ اجتماعی اخلاق کے عملی نمونے بھی ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ان چیزوں کی درحقیقتی کیجئے اور ناپ توں کر دیکھتے کہ کس پہلو سے ہمارے اجتماعی نظم میں کیا اور کتنی کمی ہے اور اس کمی کو پسدا کرنے کی فکر کیجئے۔

ھات بات ہے کہ اجتماعی نظم میں ایک فرد کو دوسرے افراد سے لامحالہ مسابقه پیش آتا ہے۔ اگر حسنِ بلن، ہمدردی، ایثار اور رواواری نہ ہو تو مزا جوں کا اختلاف تعاون کو چار دن بھی جاری نہیں رہنے دے گا۔ جماعتی نظم چلتا ہی اس اصول پر ہے کہ دوسروں کے لیے آپ اپنا کچھ چھوڑیں اور دوسروں سے آپ

کے لیے کچھ چھوڑیں۔ اس اثیار کی بہت نہ ہو تو کسی انقلاب کا نام بھی زبان پر نہ لانا چاہیے۔

### مجاہدہ فی سبیل اللہ کے ضروری اوصاف

تیسرا قسم کی صفات وہ ہیں جو مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لوازم میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کا بھی قرآن و حدیث میں منفصل تذکرہ موجود ہے۔ صرف تذکرہ ہی نہیں ایک ایک مطلوب صفت کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ وہ کس نو عیت اور کس درجہ کی ہوئی چاہیے۔ اس سلسلہ میں احکام و ہدایات کو جمع کیجئے اور سمجھئے کہ مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں۔ میں مختصر ان کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی صفت جس پر زور دیا گیا ہے صبر ہے، صبر کے بغیر خدا کی راہ میں کیا کسی راہ میں بھی مجاہدہ نہیں ہو سکتا۔ فرق حرف اتنا ہے کہ خدا کی راہ میں اور قسم کا صبر مطلوب ہے اور دنیا کے لیے مجاہدہ کرتے ہوئے اور قسم کا صبر درکار ہے۔ پھر حال صبر ہے ناگزیر۔ صبر کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جلد بازی سے اجتناب کیا جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے دشواریوں اور مخالفتوں کے مقابلہ میں استقامت و کھافی جائے اور قدم پھیپھی نہ ہٹایا جائے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ کوششوں کا کوئی نتیجہ اگر جلدی حاصل نہ ہو تب بھی بہت نہ باری جائے اور پہم سعی چاری رکھی جائے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ مقصد کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرات، نقصانات اور خوف و طبع کے موقع بھی اگر پیش آجائیں تو قدم کو لغزش نہ ہونے پائے۔ اور یہ بھی صبر ہی کا ایک شعبہ ہے کہ اشتغال جذبات کے سخت سے سخت فوائد پر

بھی اُدمی اپنے ذہن کا توازن نہ کھوئے، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ پہیشہ سکون، صحت عقل اور رُخندی قوتِ فیصلہ کے ساتھ کام کرے۔ پھر حکم صرف صبر ہی کا نہیں مصادرت کا بھی ہے، یعنی معاشرت طاقتیں اپنے باطل مقاصد کے لیے جس صبر کے ساتھ ڈٹ کر سعی کر رہی ہیں اسی صبر کے ساتھ آپ بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں۔ اسی لیے "اصلِ دُوفا" کے ساتھ "حَلَّٰیْرُ ۱" کا حکم بھی دیا گیا ہے جن لوگوں کے مقابلہ میں آپ حق کی علمبرداری کے لیے اُنھنے کادا عجیب رکھتے ہیں ان کے صبر کا اپنے صبر سے موازنہ کیجئے اور سوچئے کہ آپ کے صبر کا کیا تناسب ہے؟ شاید ہم ان کے مقابلہ میں اُن صدی کا دھوٹی کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ باطل کے خلیہ کے لیے جو صبر وہ دکھار ہے ہیں ان کا اندازہ کرنے کے لیے موجودہ جنگ کے حالات پر نظر ڈالیے۔ کس طرح وقت آپ نے پرانوں لوگوں نے اپنے ان کارخانوں، شہروں اور بیلوں سے ٹیکشناوی کو اپنے ہاتھوں سے چونکہ ڈالا جن کی تعمیر و تیاری میں سالوں کی محنتیں اور بے شمار روپیہ صرف کیا گیا تھا۔ یہ ان ٹینکوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو فوجوں کو اپنے آہنی پہیوں نلے گھل ڈالتے ہیں۔ یہ دشمن کے ان بیمار طیاروں کے سامنے میں استعمالت سے کھڑے رہتے ہیں جو موتو کے پر لگا کر اڑتے ہیں۔ جب تک ان کے مقابلہ میں ہمارا صبر ہ۔ اُن صدی کے تناسب پر نہ پہنچ جائے ان سے کوئی لٹکر لیئے کی جرأت نہیں کی جاسکتی۔ جب سروسماں کے لحاظ سے ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر سروسماں کی کمی کو صبر ہی سے پورا کیا جاسکتا ہے۔

(۴) روکری چیز جو مجاہدہ کا لازم ہے، ایشارہ کی صفت ہے۔ وقت کا ایشارہ،

محنتوں کا ایثار اور مال کا ایثار! ایثار کے اعتبار سے بھی باطل کا جھنڈا اٹھانے والی طاقتزی کے مقابلہ میں ہم بہت ہی پچھے ہیں۔ حالانکہ ہے سر و سامان کی تلاشی کے لیے ہیں ایثار میں بھی ان سے میلوں آگے ہونا چاہیے۔ مگر یہاں صورت واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص بیس، پچاس، سو اور ہزار روپے میں تخفیف کے عرض اپنی پوری صلاحیتیں خود اپنے دشمن کے ہاتھ پر دیتا ہے اور اس طرح ہماری قوم کا کار آمد جو ہر بے کار ہو جاتا ہے۔ یہ دماغی صلاحیتیں رکھنے والا طبقہ اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ایک بڑی آمدنی کو چھوڑ کر یہاں محض بقدر ضرورت قلیل معادفہ پر اپنی خدمات پیش کر دے۔ پھر فرمائیے کہ اگر یہ لوگ اتنا ایثار بھی نہ کریں گے اور اس راہ میں پتہ مار کر کام نہ کریں گے تو پھر اسلامی تحریک کیسے چل پھول سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی تحریک محض والذینہوں کے بل پر نہیں چل سکتی۔ جماعتی نظم میں والذینہوں کو اسی درجہ کی اہمیت حاصل ہے جیسی ایک اوجی کے نظام جسمانی میں ہاتھ اور پاؤں کو ہے۔ یہ ہاتھ اور پاؤں اور دمیرے اعتناء کس کام کے ہو سکتے ہیں اگر ان سے کام لینے کے لیے وہ طریقے دلے دل اور سوچنے والے دماغ موجود نہ ہوں۔ دمیرے لفظوں میں ہمیں والذینہوں سے کام لینے کے لیے اعلیٰ درجہ کے جزوں چاہیں مگر مصیبت یہ ہے کہ جن کے پاس عمل اور دماغ کی قربیں ہیں وہ دنیوی ترقیوں کے دلدار ہیں اور مارکیٹ میں اسی کی طرف جلتے ہیں جو زیادہ قیمت پیش کرے۔ نصب العین سے ہماری قوم کے بہترین افراد کی وابستگی ابھی اس درجہ کی نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنے منافع کو بلکہ منافع کے امکانات تک کو قربان کر سکیں۔ اس ایثار کو سے کہ اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہ مفسدین عالم جو روزانہ کروڑوں روپیہ اور لاکھوں جانوں کا ایثار کر رہے ہے میں۔ ہم

سے کبھی شکست کھا سکتے ہیں تو یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

در ۴) مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے تیری صفت دل کی لگن ہے۔ مغض و ماغی طور پر ہی کسی شخص کا اس تحریک کو سمجھ دینا اور اس پر صرف عقل لا معلم نہ ہو جانا، یہ اس راہ میں اقدام کے لیے صرف ایک ابتدائی قدم ہے لیکن اتنے سے تاثر سے کام حل نہیں سکتا۔ یہاں تو اس کی ہزوڑت ہے کہ دل میں ایک آگ بھڑک آٹھے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی آگ تو شعلہ نہ ہو جانی چاہیے جتنی اپنے پیچے کو بیمار دیکھ کر ہو جایا کرتی ہے اور اپ کو چھین کر مارکر کے پاس لے جاتی ہے، یا اتنی جتنی گھر میں غلطہ نہ پا کر بھڑکتی ہے اور آدمی کو تاگ و داد پر مجبور کر دیتی ہے اور چین سے نہیں بٹھنے دیتی۔ سینوں میں وہ جذبہ ہونا چاہیے جو ہر وقت اپ کو اپنے نصب العین کی دھن میں لگاتے رکھے، دل و دماغ کو بکھر کر دے اور توجہات کو اس کام پر ایسا مرکوز کر دے کہ اگر ذات یا خانگی یا دوسرے غیر متعلقی معاملات بھی اپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں بھی تو اپ سخت ناگواری کے ساتھ ان کی طرف کھین۔ لوسٹش کیجئے کہ اپنی ذات کے لیے اپ قوت اور وقت کا کم سے کم حصہ صرف کریں اور اپ کی زیادہ سے زیادہ جدوجہد اپنے مقصد حاصل کے لیے ہو۔ جب تک یہ دل کی لگن نہ ہوگی اور اپ ہرہ تن اپنے اپ کو اس کام میں جھونک نہ دیں گے، مغض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہ بنے گا۔ بیشتر لوگ دماغی طور پر ہمارا ساتھ دیتے پر آمادہ ہو جاتے ہیں لیکن کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو دل کی لگن کے ساتھ تنہ دھن سے اس کام میں شرکیں ہوں۔ یہ رے ایک فریبی رفیق نے جوں سے میر شے اتی اور جما عنقی تعلقات بہت گھرے ہیں، حال ہی میں دوسریں کی رفاقت کے بعد مجھ سے یہ اعتراض کیا کہ اب تک میں مغض و ماغی اہمیت کی بنابر پر شرکیں جماعت تھا مگر

اب پر چیزوں میں اُتر گئی ہے اور اس نے نہانخانہ رُوح پر قبضہ جایا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اسی طرح اپنے اوپر خود تنقید کر کے دیکھے کہ کیا ابھی تک وہ اس جماعت کا حصہ ایک وہاغی رکن ہے یا اس کے دل میں مقصد کے عشق کی الگ مشتعل ہو چکی ہے۔ پھر اگر دل کی لگن اپنے اندر نہ محسوس ہوتوا سے پیدا کرنے کی نظر کی جائے۔ جہاں دل کی لگن ہوتی ہے وہاں کسی بٹیجے اور اگسانے والے کی مزدودت نہیں رہتی۔ اسی قوت کے ہوتے ہوئے یہ صورت حال کبھی پیدا نہیں ہو سکتی کہ اگر کہیں جماعت کا ایک رکون تھے ہٹ گیا یا نقل مقام پر مجبور ہو گیا تو وہاں کا سارا کام ہی چھپٹ ہو گیا بخلاف اس کے پھر تو ہر شخص اس طرح کام کرے گا جس طرح وہ اپنے کو بجا رکھ کر کیا کرتا ہے۔

خدا نخواستہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہوتا تو آپ اسکی زندگی و موت کے سوال کو بالکل بھی دوسرے پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ ممکن نہیں کہ آپ یہ عذر کر کے اُسے اُس کے حال پر چھوڑ دیں کہ کتنی تیار وار نہیں، کوئی دلالتے والا نہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانیوالا نہیں۔ اگر کوئی نہ ہو تو آپ خود سب کچھ بنیں گے کیونکہ پختہ کسی دوسرے کا نہیں آپ کا اپنا ہے۔ متوسلہ باپ تو نپے کو مر نے کے لیے چھوڑ بھی سکتا ہے لگنے حصیقی باپ اپنے چل کر کے مکار سے کوئی چھوڑ دے گا۔ اس کے تو دل میں الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کام سے بھی اگر آپ کا قلبی تعلق ہو تو اس کو آپ دوسرے دل پر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی نا اہلی یا غلط روی یا بے توجہی کو بہانہ بنانا کہ آپ اسے مرجانے دیں اور اپنے دوسرے مشاغل میں جا کر منہج کر ہو جائیں، یہ سب باقی اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ خدا کے دین اور اس کی اقسامت و مرتبہ ندی کے مقصد سے آپ

کارثتہ محض ایک سوتیلا رشتہ ہے۔ حقیقی رشتہ ہو تو اپ میں سے ہر شخص اس راہ میں اپنی جان لٹا کر کام کرے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اگر آپ اس راہ میں کم از کم اتنے قلبی لگاؤ کے بغیر قدم بڑھائیں گے جتنا آپ اپنے بیوی پھوٹ سے رکھتے ہیں تو انعام پسپاٹ کے سوا کچھ نہ ہو گا اور یہ ایسی بُری نیساں ہو گی کہ مددوں تک ہماری نسلیں اس تحریک کا نام لینے کی جرأت بھی نہ کر سکیں گی۔ بڑے بڑے اقدامات کا نام لینے سے پہلے اپنی قوت قلب کا اور اپنی اخلاقی طاقت کا جائزہ لیجئے اور مجاهدہ فی سبیل اللہ کے لیے جس دل گردے کی ضرورت ہے وہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔

(۴) چوتھی ضروری صفت، اس راہ میں یہ ہے کہ ہمیں مسلسل اور پیغمبیری اور منضبط (Systematic) طریقہ سے کام کرنے کی عادت ہو۔ ایک مدت دراز سے ہماری قوم اس طریقہ کام کی عادی رہی ہے کہ جو کام ہو کم سے کم وقت میں ہو جاتے۔ جو قدم اٹھایا جاتے ہنگامہ آجائی اس میں ضرور ہو۔ چاہے لاہوریہ دہلیہ میں سب کیا کرایا غارت ہو کے رہ جاتے۔ اس عادت کو ہمیں بدلتا ہے۔ اس کی جگہ بتدریج اور بے ہنگام کام کرنے کی مشق ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، جو بجا تے خود ضروری ہو، اگر آپ کے پروردیدا چاہے تو بغیر کسی نمایاں اور مجمل نتیجہ کے اور بغیر کسی واد کے آپ اپنی پوری عمر صبر کے ساتھ اسی کام میں کھپاڑیں۔ مجاهدہ فی سبیل اللہ میں ہر وقت میدان گرم ہی نہیں رہا کرتا ہے اور نہ ہر شخص الگی ہی صفوں میں رکھ سکتا ہے۔ ایک وقت کی میدان آرائی کے لیے بسا اذفان پھیپھیں پچیس سال تک لگاتار خاموش تیاری کرنی پڑتی ہے اور الگی صفوں میں اگر ہزاروں آدمی لڑتے ہیں تو ان کے پیچے لاکھوں آدمی جنگی ضروریات کے ان چھوٹے چھوٹے

کاموں میں لگے رہتے ہیں جو ظاہر بین نظر میں بہت حیرت ہوتے ہیں۔

### پیشِ نظر کام

تقریب کو ختم کرنے سے پہلے غتیراً میں اس امر کی تشریع کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ جس پروگرام پر میں تحریک کو چلا رہا ہوں اسے سمجھا نہیں گیا۔ صب سے پہلا کام جس کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جائے ہیں یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص سے مجھے شخصاً واقفیت ہو جائے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیئے کہ میرے صالحگان کن اوصاف کے لوگ چل رہے ہیں، ان میں کیا کیا اصلاحیتیں اور قوتیں ہیں اور ان سے کیا کیا کام دیا جاسکتا ہے۔ آپ حضرات نہایت وساحت سے مجھے بتائیے کہ کس موقع پر آپ کیا کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ جس قدر جلدی میں یہ معلومات حاصل کر لوں گا اسی قدر جلدی کام کا نقشہ تیار کر سکوں گا۔ قرت کے اندازہ کے بغیر کوئی کام کرنا میرے نزدیک مستحسن نہیں ہے۔ اس غرض کے لیے آپ حضرات بار بار مرکز میں آتے رہیں، خط رکھتا بت سے مجھے معلومات فراہم کرتے رہیں اور جہاں تک ممکن ہو گا میں خود بھی اجتماعات میں شرکت کر کے آپ سے انفرادی رابطہ کو ترقی دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد ایک مکمل نقشہ کار مرتب کر کر تدریجیاً اگے بڑھنے کی نکل کر دوں گا۔

دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ ہمیں تربیت اشخاص کے لیے ایک ایسی شیزی بنال ہے جس کے ذریعہ سے ہم ضرورت کے آدمی تیار کریں اور اپنے کارکنوں میں ضروری اوصاف پیدا کریں۔ کل جو تجارتی پیش ہونے والی ہیں ان سے آپ کو معلوم

ہو جاتے گا کہ اس سلسلہ میں ہم بہت جلدی اقدام کرنے والے ہیں۔

تمیر اکام جس پر بہت دنوں سے بال مشافہ بھی اور خط و کتابت کے فریغہ بھی مجھے بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے اور جس کی شدید اہمیت کو میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں یہ ہے کہ نئی نسلوں کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق تحریک کی خدمت کے لیے تیار کیا جاتے۔ اب تک سرماجر اور مناسب کارکنوں کی لمحی اور جنگ کی پیدا کردہ معاشی مشکلات اس راہ کی روایت بنی رہی ہیں۔ لیکن شاید اس سلسلہ میں اب بہت زیادہ تعریف نہ ہو گی اور عنقریب آپ سنیں گے کہ مرکز میں اس کام کی بناؤال ولی گتی ہے۔ چنانچہ میں یہ خوشخبری بھی سناؤں کہ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اسی غرض کے لیے یہاں تشریف لاستے ہیں اور عجب نہیں کہ مستقل یہیں رہ جائیں۔

چوتھی چیز جس کے لیے ہمیں سر جوڑ کر سوچنا ہے، یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے کیا صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔ اب تک ہمارا ایک ہی ہاتھ کام کرتا رہا ہے اور گھاڑی کا ایک ہی پہتیہ سترک ہوا ہے۔ اب ہمیں اپنے دوسرے ہاتھ اور اپنی گاڑی کے دہر سے پہتیہ کی فکر کرنی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا اور ہماری عورتوں کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے اور وہ ہم سے اور ہم ان سے ہر لمحہ متأثر ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اگر ہم ان کی اصلاح کی فکر نہ کریں گے تو خود ہماری اصلاح بھی نامکمل رہے گی۔ ہم گھر دن کو مسلمان بناتے بغیر دنیا کو مسلمان نہیں بناسکیں گے۔ اس معاملہ میں ساری وقت یہ ہے کہ عورتوں سے ہم دیکھ پیانے پر برا درست ربط نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کے لیے خود عورتوں سے

ہی سے مددیں پڑے گی۔ جو تو میں کوئی شرعی ضابطہ نہیں رکھتیں ان کا معاملہ آسان ہے۔ وہ اپنی سیاسی و تکمیلی تحریکات کے لیے اپنی عورتوں کو بازاروں، کارخانوں، چٹانوں اور مدرسوں میں بنتے تکلفی سے لاسکتی ہیں مگر ہمارے لیے یہ ایک نازک مسئلہ ہے اور اسے حل کرنے کے لیے مغز زندگی کی ضرورت ہے۔

پانچ ماں کام یہ سامنے ہے کہ راستے عام کو جذب کرنے کے لیے دینے پہنچانے پر منتظر کوشش کی جاتے۔ اب تک ہم نے راستے عام کو برداشت خواهی نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اسی سمندر کے حصہ ایک ذرا سے گوشہ میں کچھ مچل پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں آہستہ آہستہ اصل سمندر کی طرف بڑھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ عوام پورے کے پورے ہمارے رکن بن جائیں۔ ہمارے مدعا کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ باقاعدہ گانڈی کی ایک کثیر تعداد حق کو حق مان لے، ہمارے مقصد کی صحت کی معرفت ہو جاتے اور ہمارا اخلاقی اثر اس پر فائز ہو جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آگے چل کر ہم جو قدم اٹھاییں گے اس میں عوام کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب تک ہم نے اپنے لمرپھر میں مسائل زندگی کے بہت قوڑے سے حصہ سے تعریض کیا ہے اور وہ بھی زیادہ تر محمل اشارات کی صورت میں ہے جو حالانکہ اس نو درمیں زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں اپنے نقطہ نظر سے تفصیلی روشنی دالنی چاہیتے۔ عوام کی تدوین جدید کرنی چاہیتے اور یہ کام ایک دوزبانوں میں نہیں متعدد زبانوں میں کرنا چاہیتے تاکہ زیادہ لوگ ہمارے مدھا کو سمجھیں۔ چنانچہ اب ہم نے اس میدان میں بھی اپنی مساعی کے وائرے کو دینے پہنچا دیا ہے۔ پھر ابھی تک ہم نے تشریفات کے لیے صرف تحریری کے ذریعہ پرانچدار کیا ہے۔ تقریب سے ہم نے

ابھی کوئی کام نہیں لیا ہے۔ اب ہمیں اس میدان کی طرف بھی بڑھا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقریر کانیا ڈھنگ اختیار کریں، نمائشی اور منگاتی اشیع سے ڈور رہیں اور ذمہ دارانہ گفتگو کی عادت ٹوایں تاکہ جو آواز بھی ہماری طرف سے بلند ہو رہا آئنی باقاعدت، وزن دار اور ممتاز ہو کم لوگ اس کو ان بہت سے ٹھروں میں سے ایک ٹھرنا بھیں جو ہنگامہ پر درا در بے لگام مقرریں کے سازوں سے نکل رہے ہیں۔ میں نے اب تک اپنے رفقاء کو تقریری سے اسی لیے روک رکھا ہے کہ پرانی عادات کا اثر بھی مکبباقی ہے، ڈورتا ہوں کہ کہیں اسی پرانے انداز کی تقریریں ہم بھی نہ کرنے لگیں جو نظمِ اسلامی کا نام لینے والوں کے منہ کو زیب نہیں دیتیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نشر افکار کے تمام فرائع کو استعمال کریں مگر پہلی فرطی ہے کہ انہیں اخلاقِ اسلامی کا پابند بنائیں اور ان غیر صدیع عنابر سے انہیں پاک کریں جو شُرُبے ہے ہمار قسم کے لوگوں نے ان میں ملا دیتے ہیں۔

یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، آپ ان پر غور کریں اور مفید مشوروں سے میری مدد کریں۔ اب میں وحاظت رہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوبی کی ذمہ داریاں سمجھنے اور اور کرنے کی توفیق حطا فرمائے۔ ہماری نیتوں میں خلوص اور ہمارے ایمان کو طاقت بخشے۔ ہماری ساعی میں برکت دے۔ ہمارے حقوق سے ہی عمل کو قبول کرے اور زیادہ عمل کی بہت دے اور اپنے اُن بندوں سے ہماری تائید کرے جو ہم سے بہتر صفات رکھتے ہوں اور ہم سے زیادہ بہتر طریقہ سے دین کی خدمت کر سکتے ہوں۔

# دوسرا نشست

(۲۴ مارچ ۹ نیکے میج تا ۱۲ نیکے در پہر)

پروگرام کے مطابق دوسری نشست جماعتوں کی مقامی کارگزاری کی روپرتبیں  
نالئے کے بیس خصوصی بھی۔ چنانچہ مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے تفصیلًا اپنے کام  
اور اپنی مشکلات کی روپرتوں کو حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ ان روپرتوں کی غرض  
یہ تھی کہ مختلف ارکان کو یہ معلوم ہو جاتے کہ کہاں کہاں کس نوعیت کا کام کس طرز پر ہو  
رہا ہے اور اس کے مقابلہ میں کہاں کے لوگ کتنے پچھے ہیں، کیا کیا مشکلات مختلف  
اصحاب کو پیش اور ہی ہیں اور انہیں کس کس طرح حل کیا جا رہا ہے۔ روپرتوں کے  
اس مدعاع کو امیر جماعت نے مختصری تقریبیں اپنی طرح سے واضح کر دیا تھا۔

اس کے بعد امیر جماعت کے ایسا سے مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے ان  
پر تبصرہ کرتے ہوئے بہت سی مفید ہدایات اور مشورے دیتے۔ ان کی تقریبی کو ذیل  
میں درج کیا جاتا ہے۔

## رپورٹوں پر تبصرہ

### (جناب مولانا میں احسن صاحب اصلاحی)

حاضرین میں آپ کی رپورٹیں سُننے میں ایسا منہج رہا کہ مجھے ان رپورٹوں کے مختلف پہلوؤں پر اتنا غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جتنا کہ ان پر تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم کچھ باتیں مجھے کھلکھلتی رہی ہیں اور ان کے متعدد ایرجیات کے خلم سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ چنان تک آپ کی کارگزاریوں اور پیان کردہ لامد واقعات کا تعلق ہے ان پر تبصرہ بغیر ضروری معلوم ہوتا ہے مگر جہاں تک دوسروی جما عنتوں سے تعلق و تصادم کا معاملہ ہے اس میں اصلاح کی بڑی گنجائش ہے اور میں اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔

### تبیین حق کی مشکلات کا علاج

آپ حضرات نے جن مشکلات کو پیش کیا ہے ان کا سامنا تو اس راہ میں ناگزیر ہے۔ مگر ہم کو ان کا صحیح علاج سوچنے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ صحیح طرز پر حق کا کام کرنے والوں کو زادحتوں سے بہر حالی دوچار ہونا ہی ہے مگر اس مرحلہ پر یہ طرز عمل تو قطعاً غلط ہے کہ دوسروں سے خراہ مخواہ تصادم پیدا کیا جائے۔ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں اگر چند ضروری امور کا اہتمام کیا جائے تو ہماری راہ کے کانٹے بڑی حد تک اور ہر سکتے ہیں۔

(۱) اس مسلم میں پہلی چیز جس پر میں نے اُج بھی اور پہنچے بھی بہت خود خوب

کیا ہے اور جو بہت ہی مشکل معلوم ہوتی ہے، انہایت درجہ سجدہ ترجیحاتی ہے۔ پیری مراد حق کو جماعت سے باہر کے لوگوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ وہ مری جماعتوں سے ہمیں اس کے سوا کچھ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق کو صاف پہنچان جاتیں۔ وہ ادا رکھیے کہ یہ کام محض ذل سے پورا نہ ہو سکے گا۔ اسی کے لیے ہمیں اپنے انفرادی اعمال اور اجتماعی ارادوں کو دیکھنا پڑے گا۔ بجا تھے اس کے کہ زور دار تقریروں کا مقابلہ بہایا جائے اور نظریات کی اشاعت پر یہیں کے ذریعے سے کی جائے۔ ہونا یہ چاہیئے کہ اپنے مل سے ہم یہ ثابت کر دیں کہماں اپنے مقصد میں مخلص ہیں اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے ہاصوم ایک حقیقی فائز سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی سے شمنی نہیں بلکہ دنیا کی پوری آبادی سے حقیقی ہمدردی ہے۔

ازماںش کے مختلف مراقب پر، اگر ہم مل سے یہ ثبوت بھی پہنچاویں کہ ہماری زندگی کسی خاص گروہ یا جماعت یا کسی قوم کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ حق کے نسب العین کے لیے ہے تو ہم نوں کو فتح کر لینے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ماننے والے شمار عصیتیں جھٹی ہوتی ہیں اور ان کا ایک اچھا خاص امر ٹاخوں خود ہمارے گرد پھٹا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی دعوت کی راہ کی ہہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ خل ہمیں خدا ہی جلدی حملکی ہوا تر دینا چاہیئے اور حق کو بالکل بے نقاب کر کے لوگوں کے مانے لانا چاہیئے تاکہ لوگ صاف صاف پہنچان لیں کہ صداقت و حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اپنے پیری پھر، اپنے جماعت اور اپنی قوم کو غلط عصیت کی آلوگیوں سے اپنارا من پاک کر لیں، تو اگرچہ دنیا کی زبان ملعون کبھی بند نہیں ہو سکتی مگر ہمارے خلاف بحث و دلیل کی زبان

بند ہو جاتے گی۔ صرف یہی طریقہ ہے دنیا کو انکار حقيقة سے روک دینے کا عجیب  
کی بُر بھی اگر باقی رہے گی اور حق کے سوا اپنی ذات یا کسی ذم کے تغوق کی کوئی خواہش  
بھی ہمارے اندر موجود ہے گی تو ہم خود اپنے یہے جواب دینے رہیں گے اور اپنی دعوت  
کے راستے میں چنان بھی کر حاصل رہیں گے۔ مگر وہ میں، ہزاروں میں، جلسوں میں،  
خانقاہوں اور مساجد میں ہر پہلو سے اپنے آپ کو اونٹ اغراض سے بلند تر کھانا  
ناگزیر ہے۔

اس گزارش کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات اسوہ انبیاءؐ کا مرطال الع  
کیجئے اللہ کی جانب سے چلنے والی اللہ کے لمحے کو اونچا کرنے کے لیے آتے ان میں  
سے ہر ایک نے شتر حق کے سوا ہر شتر کو توڑ دیا، محیت چاہیت کے سارے بندھن  
کاٹ دیا، تعصبات کی موٹی موٹی زنجروں سے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ اسی کاظمیہ تھا  
کہ ان کی دعوت بغیر کسی فرق و اختیار کے ہر حق آشنا دل کو اپیل کرتی اور جو لوگ ان کی  
دعوت پر بیک کہتے ان کے سینوں میں گردہ ہوں اور جامتوں کی برتری کے بجائے  
انسانیت کی خدمت کا جذبہ مشتعل ہو جانا۔ اگر انہی داعیانِ ہدایت کے اسوہ کا  
اتباع کیا جائے تو ہماری پہنچی مشکلات متعال ہو جاتی ہیں۔ اس حسلہ میں اگرچہ جماعت  
کے لئے پھر میں ہر دنی احمد پیاں کر دیتے گئے ہیں، مگر کام کا کوئی متعلق پروگرام ابھی ہم  
نہیں بناتے ہیں۔ میں یہاں اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کر سکتا کہ اپنی پرائیویٹ  
اور پبلک زندگی میں یہ ثابت کر دینے کی فکر کیجیے کہ آپ کی ساری مساعی صرف اللہ کے  
لئے کوئی بندگی کرنے کے لیے ہیں جنحیں اور دمایت کے جھگڑوں اور گردہوں اور جامتوں  
کی بدگمانیوں کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ہمیں کوئی نئی جماعت نہیں بنانی ہے

ہمارا مقصد صرف حق کو واضح کر دینا ہے۔

(۴) ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تعلیٰ اور گھنند جو ایک حقیقت کو پالینے پا ایک علم کو حاصل کر لینے سے اُدمی میں پیدا ہو جاتا ہے ایک داعیٰ حق کے لیے سب سے بڑا حجابت ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے کچھ اُدپر ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کی راہ میں خود روک بین کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کی بُر کو فراز یادہ صفائی سے چُپ لیتے ہیں مگر وہ میں یہ فتنہ موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی گفتگوؤں اور تحریروں میں ایک بنادوٹ سی اُجاہی ہے اور بنادوٹ دعوتِ حق کے ساتھ کوئی خصیت ساری بُلی نہیں رکھتی۔ تعلیٰ اور تکبر کے منظاہرہ سے لوگ بدک جاتے ہیں اور اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ اس انکشافتِ حق کو جو آپ پر ہوتا ہے اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھیں اور اس پُر شکر گزار ہوں۔ یہ احساس آپ میں کبھی کبھی تو واضح کا جذبہ پیدا کرے گا اور بند کان خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کر دے گا۔ جہاں خدا کی عطا یافت کا احساس اُدمی میں پیدا ہو جاتا ہے، وہاں خود بخود تکبر کی جگہ تراش، خصب کی جگہ چمڑی اور ٹپٹی کی جگہ محبت کے جذبات نشووناپانے لگتے ہیں۔ داعیٰ حق کو عوام سے فیضی رہی لہری اور قلبی محبت ہونی چاہیئے جیسی ایک بچے کے لیے ماں اور باپ میں پائی جاتی ہے۔ اسے لوگوں کی غلطیوں سے مزا لیتے کے بچلاتے کو فت ہوتی ہے، احتساب کی جگہ اس میں درود مندی پیدا ہوتی ہے۔ خود روتکبر کی جگہ اس میں ایک ہمدردانہ احتطراب رونما ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لب، والہجہ میں بھی وہ سوز پیدا ہو جاتا ہے جس سے پھر کی

طرح سخت دل بھی موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔

(۴) میں نے رپورٹوں کو مُسُن کر کر مخصوص کیا ہے کہ ہمارے فقارات مخالف چاہتوں پر انہیں الفاظ میں چوٹیں کرتے ہیں جو مدتیوں سے ہماری زبانوں پر چڑھتے ہوتے ہیں تبم اپنے مخالفین کا تذکرہ کرتے ہوتے اسی طرح لذت بیتے ہیں جس طرح دوسری چاہتوں اپنے حریفوں کی تحریر سے لذت بیتی ہیں۔ بحثت ایسے لوگ بھی ہم میں موجود ہیں جو جبروت میں چاہے محتاط ہوں مگر خلوت میں وہ بھی ایک حد تک دوسروں پر طعن دلخراز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ریالاری سے وہ روح کبھی نشودنا نہیں پاسکتی جس کا نام خلوص ہے اور خلوص کے بغیر دعوت حق کو دوسروں کے دل و مانع میں آمانا ناممکن ہے۔

اصل میں جب ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے جانکرے وہ دوسروں کو نہیں معلوم ہے، اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ آخر اتنی بد یہی بات دوسرے کیوں نہیں سمجھتے، تو ہمارے اندر کچھ قائم انا نہ اور کچھ معلمانہ شان پیدا ہو جاتی ہے اور ہم دوسروں کو اسی طرح ملامت اور نزاکاتی کا مستحق خیال کرنے لگتے ہیں، جس طرح ایک معلم اپنے شاگرد کو اس کی ہر خلطی پر گر کر شہادی کا مستحق بخت ہے لیکن تعییم پر غور کرنے والے اصحاب پر شیدہ نہ ہو جا کہ یہ طریقہ تعییم مدرسے سے غلط ہے۔ اگر تعییم کو دلوں میں آزارنا مقصود ہے تو غصب، اطرز و تعریض، درشت زبانی اندر لغت فقاراتی کے ہتھیار کھول ڈالیے۔ آپ کسی سے رٹنے نہیں جا رہے ہیں، تعییم و تبلیغ کی جہم درپیش ہے اور اس جہم کے لیے دلسوzi، ہمدردی اور احساسِ اخوت کے اسلوچ ہی مفید ہو سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ پر سب سے زیادہ سخت

دن کون ساگر را ہے۔ ارشاد ہو اطاعت کا دن! اس روز دنیا کا سب سے بڑا انسان پتھروں کی بارہ کاشاد بذریٰ ہوا ایک بارع کی طلبی کی پناہ لیتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ان ظالموں کے حق میں بددعا کیجئے تو وہ بددعا کرنے کے بجائے اہل طاعت کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ یہ سپرٹ پیدا کیے بغیر اور کام تو شاید ہو سکتے ہیں لیکن حق کا کام نہیں ہو سکتا۔ لوگ اگر حق کے منزے سے واقعت نہیں، وحدت کی خوشبو سے مخدوم ہیں تو وہ غصب کے نہیں سہ دردی کے مستحق ہیں۔ بلاشبہ ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ حق کو پہچاننے کی سعادت سے مخدوم ہیں مگر اس پر یہ کیسے جائز ہو گیا کہ ان سے بے رحمی اور عزود کا بر تاؤ کیا جائے۔ ہماری کوشش دوڑاں تبلیغ میں یہ ہونی چاہیئے کہ یہ لوگ محسوس نہ کریں کہ انہیں گھسیدٹ کر یا مالک کر کسی طرف لاپاچار ہے۔ بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ خود بخود ایک حقیقت تک پہنچنے ہیں۔ اصولی مستہارت پر تمام مسلمان جماعتیں متفق ہیں۔ اور اگر نرمی، حلم اور برادرانہ محنت سے کام لیا جائے تو اسانی سے ان تمام جماعتوں میں ہم آہنگ پیدا کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے یہ کام مناظرہ بازی اور دماغی نشان کی خواہش کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ یہی خواہش تو انسان کو تشدد اور تعصیب پر آمادہ کرتی ہے۔

آپ حضرات اپنی تقریروں اور گفتگوؤں میں جوں ہی اس خواہش کا اثر محسوس کریں وہیں اپنے نفس کی باگ کھینچ لیں اور اگر مخالف کی طرف سے اس کا مظاہرہ ہو تو "قائوْا سَلَّاداً" کا طریقہ اختیار کریں۔ تباول و تہ خیالات کے دوران میں ہار جبیت کا کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیئے۔ داعی کا مقام ایسی چیزوں سے

بہت اونچا ہے۔ اسے تصرفِ کلمہ حق کے چند بیج ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور پھر دماغیِ ہجتوں کی رکھوائی کرنی ہے۔ کبھی یہ خیال بھی دل میں نہ آنے دیجئے کہ ہماری باتِ رہ جاتے یہی خیال اصطلاحی مناظرہ کی رُوح ہے۔ اسی کی مشق ہم حالہ سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب پُرمی قوت کے ساتھ اس عادت کی جگہ اکٹھنی ہیں۔ اب ہمیں مناظروں میں جنتیں کے بجا تے ہارنے اور بار بار ہارنے کی مشق بہم پہنچانی ہے۔ جہاں گفتگو سے خود کی رُوحِ رخصت ہونے لگے وہیں زبان پر قفل چڑھا دیجئے اور کچھ پرداز کیجئے کہ اس پرتالی پٹ جاتے گی۔ زبان کی ہر غرضش پر بے تکلف سے مخاطب سے معافی طلب کیجئے اور اس سے بے نیاز ہو جائیے کہ آپ پر آواز سے کئے جائیں گے۔ ان شکستوں کو اگر سہنے کی ہمت ہو تو آگے آئیے اور کام کیجئے ورنہ اگر مناظرانہ ہتھکنڈوں سے کسی کو آپ کھینچ کر لاتے بھی تو وہ جس راستہ سے آیا ہے اسی راستہ سے ایک دن واپس لمبی ہو جائے گا۔

نبیاء علیہم السلام کے کام کی خصوصیات

اگر اس معاملہ میں آپ نبیاء علیہم السلام کے طریق کار پر غور و خوض کریں تو معلوم ہو گا کہ اس کی چند خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی موجودہ جماعتوں میں سے ہماری جماعتِ مبیوں کے طریق کار کی پریدی کا عزم کر رکھی ہے۔ پس ہمیں براہ راست وہیں سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نبی آیا تو اس نے اپنی قوم کو یوں مخاطب نہیں کیا کہ ”اسے کافروں ایمان لاو“ یا ”اسے مگر اہو اسید حی راہ پر آجائو“ بلکہ محبت امیر انداز میں ہیما قوم“۔ ”یا ایها الناس“ اور ”یا اهل

الکتب کے افاظ سے انہیں خاطب کیا۔ حدیث ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے انہوں نے جب ایمانی کمزوریاں دکھائیں اور انہیں تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہیں بھی یوں نہیں مخاطب کیا کہ اسے منافق یا اسے بد عہد و با اپنی روشن کو بدلو، بلکہ انہیں یادیں ہذین ۴ منو اکہہ کر سکارا۔ پھر جو لوگ ان فاعلیاتِ حق کا ساتھ دیجئے پر کاموں ہوتے تو انہوں نے بھی اپنے طرزِ خطاب کو حلم، محبت اور نرمی کی حدود سے اُگنے نہیں بڑھنے دیا۔

پھر اُگے چل کر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ایک صارع و مصلح جماعت اپنے قول م عمل سے حق کو بالکل بے لقاب کر دیتی ہے اور حق کا چہرہ گرد و خبار سے عافت ہو کر لوگوں کو نظر آنے لگتا ہے۔ اس موقع پر حق کو گھم گھلام کیجئے کے باوجود جو لوگ ملکارت، ضد یا تعصب کا منظا ہرو کرتے ہیں اور و لا تل کا ترش خالی ہو جانے کے بعد بھی انکار کی روش جاری رہتی ہے تو پھر نبی کا طرزِ خطاب بدلتا ہے۔ پھر وہ مشرکتوں کو صاف افاظ میں ”یَا أَيُّهُمْ أَنْكَفَرُوا فَنَ” کہہ کر پکارتا ہے اور اپنی قوم سے الگ ہو جاتا ہے مگر اس سے پہلے درستِ مدید تک وہ طائفت سے ہی دعوت دیتا ہے ہے۔ نبی کریم نے اپنی قوم کے ساتھ یہ روشن اس وقت اختیار کی جب دعوت و اخراج ہو چکی تھی اور قوم کی اندھی فناافتت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے خود اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر دیا، معتبرین اس پر یہ کہا کرتے ہیں کہ درحقیقت جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو درحقیقی، تب حلم و عنو تا مگر جب طاقت اُنے مگر تدرستی پیدا ہونے لگی، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی انسانوں کی کمزوریوں کا صحیح صحیح اندازہ کرتا ہے اور انہیں کمزوریوں

کے پیش نظر وہ ان سے شفقت کا سلوك روا رکھتا ہے۔ اس کی یہ شفقت آنی فیضان میں ہوتی ہے کہ اثر یوگ کا اس کی وجہ سے ناجائز فائدہ الٹا تھا تھا ہے میں۔ نبی یہ سب کچھ دیکھتا ہے مگر کسی کو سمجھئے نہیں چکتا وہ صرف عجمی انداز میں جماعت اور جماعت سے باہر کے لوگوں پر تنقید کرتا ہے۔

تَابَالْ قَوْمَ يَغْمُدُونَ كَذَّا ذَكَّا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور خدا کے غصب سے نہیں ڈرتے)

ان تنبیہات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عدم تقاضہ دین کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں۔ آخر میں چاکر صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو سو فیصد ہشت دھرم ہونے کی وجہ سے جماعت کے نظم کو درہم برہم کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے اصلاح کی ہر ترقی ختم ہوتی ہے تو پھر نبی اپنی محدثوں کے قیمتی ثمرے یعنی اپنی جماعت صالحہ کو خطرے سے بچانے کے لیے یاد گھست۔ عَلَيْهِمُ اَنْتَمْ۔ کے طریقہ پر مأمور کیا جاتا ہے۔

آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ملتی ہے۔ اس کا اپنی جنگی روشنیوں پر نماز ہے وہ صرف دنیا کو تاریک کرنے میں معین ہو سکی ہیں۔ بلکہ انفصال یہ ہے کہ باطل کو حق اور حق کو باطل بنانے کو دھانٹنے کی سعی کے علاوہ سے تاریخ ہا کرتی دور اس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب کہ حق واضح اور آشکارا نہیں ہے تو دوسری پرستی گیری کرنے کی کنجاتش کہاں ہے؟ یہ وقت "داغدط عدیہم" پر عمل کرنے

کا نہیں ہے۔ ابھی تو ایک ملبا وور محبت و شفقت، ہمیں طے کرنا ہے اور اس دو ریں کی  
کو پچھے نہیں پھینکنا ہے۔ البتہ خدا اگر ہماری محدود صاعقی کو قبول فرمائے ہمیں احتیاط  
خیز اور ابسطال بامل کے لیے کوئی نظم قائم کرنے کی توفیق دے دے اور تقدیم تبتیع  
الْمُوْشَدُ مِنَ الْمُغَيْبِ۔ یہ کی صبح سعادت طلوع ہو جائے تو پھر یہ رذشنی کھوٹے  
کھرے، اعمی اور بصیرہ مومن اور منافق کو ایک دوسرے سے خود میز کر دے گی۔  
پچھے عرصہ میں ہمارے زفراں نے ہہاں کہیں انہیں بیدار کے طریقی دعوت کو  
چھوڑ کر جلد بازی سے کام لیا ہے دہاں یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ ہم خدا نخواستہ  
مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ غلط فہمی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے۔  
اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ ہماری دعوت کی طرف سے کان بند کر لیں گے۔  
ہمارا کہنا مرد یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا طبقہ صحیح شعور دینی سے محروم ہو چکا  
ہے اور مرجورہ نظام طاغوت نے ان کی اس جہالت کے بڑھانے میں پورا حصہ لیا  
ہے۔ اور بیگانوں اور بیگانوں نے مل کر ان کو ایسے انگلشی دیتے ہیں کہ ان کی قوت  
ماؤت ہو گئی ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کی قوت شامہ کو بیدار کریں۔ جب ان کی  
نیت شامہ بیدار ہو جاتے گی تو وہ خود اپنی موجودہ حالت سے بیزاری محسوس کرنے  
لگیں گے اور کفر و شرک اور نفاق کی ساری غلطیتوں سے انہیں از خود نفرت ہو جاتے  
گی۔ اس مقصد کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو باتیں کفر و شرک ہیں ہم  
ان کو کفر و شرک ہونا مانع کر دیں بس اس قدر کافی ہے۔ کسی مسلمان کی روح شرک کو

محسوس کر دینے کے بعد اس سے دوستی نہیں رکھ سکتی۔ جن شخص میں صفائی اور طہارت کا مذاق پیدا ہو جاتا ہے وہ خود اپنے دامن کی نجاستوں کو دھونے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے مسلمانوں میں صحیح شعور دینی بیدار کر دیا تو وہ از خود ساری آکروگیوں سے پاک ہونے کی کوشش کریں گے۔

اس دینی شعور کو حام کرنے کی جدوجہد میں یہ لازم ہے کہ ہماری توجہ دین کے اصول پر مرکوز رکھے۔ جزوی مسائل میں نہ اُبھے۔ دین کی اساس توحید، رسالت اور معاد کے صحیح تصورات و معتقدات پر قائم ہے۔ یہ تصورات اگر ذہنوں میں اپنی ضروری تفصیلات کے ساتھ واضح ہو جائیں تو دین کا صحیح شعور پیدا ہو جاتے گا۔ اور اس کی وجہ سے جزوی امور میں خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور تمہیں ان کے لیے کوئی خاص جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ جب کسی شخص میں مذاق سیم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جائے قیام، بیاس اور یہ دن کی ایک ایک گندگی پر توجہ دلانے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ اس کی زندگی کے ہر گوشہ میں خود ہی نفاست اور استحرانی نمودار ہونے لگتی ہے۔

اب میں آپ کے اس سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جواب نے کیا ہے کہ جزویات سے میری مراد اُمیں با بھروسہ غیرہ کی قسم کے مسائل ہیں؟ نہیں یہاں جزویات سے میری مراد اُمیں با بھروسہ اور فرع پیدا ہوئے غیرہ کی قسم کے مسائل نہیں ہیں۔ ان مسائل اجتنابی ہیں تو ہمیشہ ہمیں رواداری ہی کا مسلک اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ان کے دونوں پہلوؤں کے لیے دین میں گنجائش ہے میں یہاں ان جزویات سے عرض بصر کا مشورہ دے سے رہا ہوں جن کے لیے دین میں گنجائش

نہیں ہے بلکن خدمتِ دین کی مصلحتِ مقتضی ہے کہ اپنی دعوت کے اس مرحلہ میں ان سے بھی چشم پوشی کریں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم شاخوں کے تراشنسے میں اپنا سارا وقت برپا رکر دیں گے اور فتنوں کی چڑوں کی طرف توجہ کرنے کی نوبت ہی نہ آتے گی، ہمارا کام صحیح طور پر جب ہی ہو سکتا ہے کہ توحید اور رسالت اور معاد کے پورے پورے معتقدات اپنی طرح عوام کو سمجھا دیتے جائیں۔ یہ لہار استدھارے کر لینے کے بعد لوگ جزئی امور میں راہ حق کو پاسکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ خود محسوس کرنے لگیں کہ فلاں کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے عقیدہ توحید کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ فلاں رسم جو رائج ہے، ہمارے تصور و رسالت کے ساتھ مناسب نہیں رکھتی اور فلاں عادت جو فرع پائے ہوئے ہے، ہمارے تصورِ معاد کے مطابق نہیں ہے۔ بہر حال ان جزئی امور میں کسی گروہ کو سخت سست کہنا یا کسی سے مقاطعہ کرنا ہمارے کام کے لیے قطعاً مضر ہے۔ حتیٰ الوعظ ان معاملہ میں چشم پوشی کیجیے۔ اگر کوئی سلیمانی الفطرت اُدمی اس سلسلہ میں کچھ سنت گوارا کرے تو زمی سے کہتے کہ بھائی یہ کیا چیزیں ہیں جو تم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ پھر اگر وہ کچھ اثر لے تو بہتر درنہ خاموش ہو جائیے۔ پُر زور اصلاح ان چیزوں کی ہوتی چاہیے جن سے اصل دین پر زور پڑتی ہے۔

اصلاح کے کام میں ترتیب یہ ہوتی چاہیے کہ پہلے کسی اصل کے قریب تین مقتضیات پیش کیجیے جائیں پھر اس سے بعید، پھر اس سے بعید تر۔ مثلاً توحید کے متعلق میں سب سے پہلے وہ چیزیں لینی چاہیں جن پر عموماً سب مسلمانوں کا اتفاق ہے پھر اُنکے پل کر ان خفی امور کی وضاحت کیجیے جو اولیاتِ توحید سے مستنبط ہوتے ہیں۔ پھر

اور اگے چلیے اور ان اُخري متفضياتِ توحید کی طرف رہبری کیجئے، جن سے عوام کی توجہ تو بالکل ہی ہٹ چکی ہے اور علماء بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے عملی متفضيات سے غافل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے رفقاء ان مشوروں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے۔

---

# تفسیر کی تہمت

(۲۰۰۰ء مارچ نمازِ نہر و نمازِ عصر کا درمیانی وقت)

## تجاویز

پہلی تہمت مدت تجویز کے لیے مختص تھی۔ چنانچہ بہت سے اصحاب نے کام کو اگے بڑھنے کے لیے اپنی تجویز پیش کیں۔ ان تجویز کو اور ان پر ہونے والی بحث و تجھیں کو مختصر رہا۔ اس لیے درج کیا جاتا ہے کہ جماعت کے اراکین اور سہروار اور اس کے کام کو تنقیدی نظر سے دیکھنے والے اصحاب یہ اندازہ کر سکیں کہ ہمارے حلقوں کے دماغ کس طرز پر سوچ رہے ہیں اور فتنی طور پر کس پہلو سے کیا کی ہے۔ اب یہاں اصل ترتیب کے مطابق ایک ایک تجویز کو پیش کیا جاتا ہے۔

## تجویز ۱۔ قیم جماعت کا تقریر

مجموعہ نصر اللہ خاں صاحب عوین میر اخبار مسلمان "من جانب جماعت اسلامی

لاہور۔

اس تجویز کا نشایہ تقاضا کہ کام کی رفتار کو تیز تر کرنے کے لئے کیک قائم تنظیم یعنی قیم جماعت

کانفرنس میں لایا جاتے ہے جو دوڑہ کر کے مختلف مقامی جماعتیں کو سرگرم عمل رکھے۔ اس پر ایمیر جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تجویز کی اہمیت تو بالکل ظاہر ہے البتہ مطلوبِ ادمی کا ہاتھ آتا اور اس کے اخراجات کا بار اٹھانے کی ہمت کرنا ہے پر ہیں دشikelات۔ ان کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت، بیت المال کو مضبوط بنانے کی نظر کر سے اور ادھر میں سوچ کر کسی ادمی کو ازاں مانشی طور پر قائم جماعت کے منصب کے لیے مقرر کرنا ہوئے۔ چنانچہ اس پر جماعت متفق ہو گئی۔

### تجویز ۳:- یمنی و یمنی مرکز کا قیام

مجوہنہ، ملک نصراللہ خاں صاحب عزیز (لاہور) اس تجویز میں یہ مطابقہ کیا گیا کہ جماعت کے مرکز میں کچھ اہل دعائی فلتم حضرات کو جمع کر کے اہمیں ریسرچ کے کام پر دکایا جاتے تاکہ وہ اہلینان سے جماعت کے نظریات کی اساس پر مختلف علم کی تدوین کرتے رہیں۔ ملک صاحب نے ان حضرات کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رائفلی کا طریقہ بھی پیش کیا۔ اس تجویز کے مختلف پہلوؤں پر گلظتوں کے بعد ایمیر جماعت نے فرمایا کہ اس کام کے لیے نہ رفت یہ کہ بسراقات کے لیے مناسب و نیضے کارکنوں کو دینے پڑیں گے بلکہ ان کے رہنے ہجئے کے لیے مرکز میں کافی عمارتیں ہوں چاہیں۔ علاوہ پریں وسیع پمائنے پر ایک کلب خادم ہتھیا کرنا ہو گا۔

لئے اس تجویز کے مطابق ایمیر جماعت نے ۱۹۷۷ء سے طیل محمد ( موجودہ ایمیر جماعت اسلامی پختان ) کو ایک سال کے لیے بعثان اختر رکیا۔

یہ ساری ضروریات جنگ کے بعد دران میں ہتھیا کرنا بہت مشکل ہے ویسے میں خود اس قسم کے کام کو شروع کر دینے کی شدید ضرورت محسوس کرتا ہوں اور شاید جنگ کے خاتمہ پر ایک سال کے اندر اندر شجہہ علمی کے مختصات ایک تحقیقی و تصنیفی مرکز کی بنیاد رکھ دی جائے۔ مگر اس چیز کا خیال رکھیے کہ تجارتی اصول پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ درخواست کارکنوں میں کاروباری ذہنیت پیدا ہو جاتے گی۔ رماغی اور علمی کام تحریت خدمت کے اصول پر ہونے چاہتیں۔ بیت المال بیسے لوگوں کی ضروریات کو پڑا کرنے کے لیے کسی تعقیب مزد کے بغیر مناسب و ظائف دیتا رہے۔

تجویز ۳: چماعت کے مرکز کو کسی پہنچ مقام پر منتقل کرنے کے باشے میں۔  
عمر زریح خاں خازی سلطان محمود صاحب افت مروال رضیخ شاہ پر ایشمول تجویز جناب  
ملک نصرالله خاں صاحب عزیز منجانب چماعت دہور۔  
ہر دو حضرات کی تجاویز کا خلاصہ یہ تھا کہ مرکز موجودہ مقام سے منتقل کر کے کسی مرکزی مقام پر لاپایا جائے۔

اس پر ایرج چماعت کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جب تک کسی مقام پر ضروریات کے مطابق زمین اور زمین کو استعمال کرنے کے لیے ناگزیر وسائل فراہم نہ ہو جائیں۔ استعمال مرکز کی کوئی تجویز و زدن نہیں حاصل کر سکتی۔ اس پر مختلف مقامات کے بعض اصحاب نے زمین یا وسیلے وسائل کی پیش کش کی۔ ان حضرات کو یہ کہا گیا کہ آپ جو کچھ چماعت کو دے سکتے ہیں، دیں۔ جہاں بھی زمین اور وسائل فراہم ہو جائیں گے انہیں استعمال کرنے میں ہم دریغ نہ کریں گے۔

## تجویز ۷:- بچوں کے لیے تربیت گاہ

مجوز جناب حافظ فتح محمد صاحب راہریں (جاںندھر) بشوی تجویز جناب قاضی  
حمدی الدین صاحب (سیاکرٹ)

حافظ صاحب کی تجویز کا مدعایہ تھا کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے مرکز میں  
جلد ہی ایک تربیت گاہ قائم ہو جائی چاہیے اور قاضی صاحب نے عام ارکانِ جماعت اور  
مبتدیین کی ضروری تربیت کے لیے مناسب انتظام کا مطالبہ کیا تھا۔

اس تجویز کے جواب میں ایرج جماعت نے وضاحت سے بتایا کہ یہ دونوں کام ہمارے  
پیش نظر ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے اب تک دونوں اسلکیں معرضِ التوانہ میں رہیں،  
مگر اب تو کھلا علی اللہ قدم اُس کے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں مولانا میں احسن اصلاحی  
اور بعض دوسرے رفقاء کے مشورہ سے نقشہ کار در تسب کر کے اس مسلم میں بہت جلدی  
کام شروع کر دیئے والا ہوں۔

## تجویز ۸:- بیت المال کو مصبوط بنانے کی ایک تدبیر

مجوز جناب محمد تربیت صاحب (ذو شہرہ)

(۱) اس تجویز کا مقادیر تھا کہ جماعت کے ان اہل ہزار الکھیں کو جو مرعایہ نہیں رکھتے،  
جماعت کے مرعایہ سے کار و بار پر لگایا جاتے۔ ان لوگوں کی پوری کمائی بیت المال میں  
چل جایا کر سے اور انہیں صرف بقدر ضرورت مناسب معادضہ ہڈا رہے۔ اس سے  
بیت المال کو تقویت ہیجئے گی۔

اپنے تجویز کے مختلف پہلوؤں پر کافی دریک بحث ہوتی رہی اور آخر میں ایم جماعت اس تجویز پر پہنچے کہ کاروبار کے احوال پر جماعت کی طرف سے کوئی ایک عمل میں نہیں لائی جائی چاہیے۔ البته افراد اپس میں بطور خود اس طرز پر کام کریں تو اس سے کسی کو اختلاف نہ ہوگا۔ اس پر تجویز نے تجویز اپس لے لی۔

(۲) اس مشاورت کے دوران میں حافظ عطاء الرحمن صاحب نے اس سلسلے میں ایک دوسری تجویز یہ پیش کی کہ جماعت کے مجملہ ارکان کو اپنی آمدی کا ایک مقررہ حصہ بیت المال کو ادا کرنا چاہیے۔

اس پر ایم جماعت نے یہ فیصلہ دیا کہ متابطر بندی کے ذریعے سے ارکان کو اس کام پر مجبور کرنا ہماری پالسی کے خلاف ہے۔ ہاں جس دکن کو بطور خود اپنے فرض کا حساب ہروہ اپنے اور خود پابندی حاصل کرے۔

(۳) اس کے بعد یعنی صدقی صاحب نے اسی سلسلے میں ایک اور تجویز پیش کی جس کا مدعا یہ تھا کہ چونکہ نظام المانہ نظام معیشت نے حلال فرائع احمدی تک کو ناپاک بناؤاللہ ہے اور ہم میں سے کسی کی آمدی بھی پاک نہیں رہ گئی ہے۔ لہذا ہمارے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اخظر ارکی خدمت سے نامہ اٹھاتے ہوئے ہم صرف ضروریات زندگی کی حد تک اپنی آمدیوں کو اپنے اور استعمال کریں اور بقیہ کو بیت المال کے حوالہ کر دینے کا انتظام کریں۔ اس غرض کے لیے جماعت اخراجات کی مناسب تحدید کر دے۔

اس پر ایم جماعت نے فرمایا کہ تحدید اخراجات جس قانونیت کو مسترد ہے اسے ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تجویز نے یہ ترمیم کر دی کہ اگر قانون نہیں تو کہہ دیکم خلاف

ہمیں اس کا پابند ہو رہا چاہیے۔ تجویز کی اس شکل سے ایم جماعت نے اتفاق کر لیا، مگر دوسرے زفقاء کے اختراضات کا مسئلہ چونکہ تھیں میں نہیں اور ہاتھ اس پر یہ مجوز نے برصغیر غبت اپنی تجویز واپس لے لی۔

## تجویز ۴: نئے علمِ معاشرت کی تدوین

مجوز حافظ عطاء الرحمن صاحب (دارالاسلام)

حافظ صاحب نے اس ضرورت کو واضح کیا کہ عہد حاضر کا انسان ایک نئے نظام کا طلب گاری ہے اور جماعتِ اسلامی کو ایک مجلسِ تحقیقِ معاشیات مقرر کرنی چاہیے جو اکیلِ اسلامی معاشرت کے اصول کو جمع کرے اور دوسری طرف موجودہ دوسرے کے علمِ المعاشرت کا مطالعہ کرے، حتیٰ کہ ایک یا علمِ المعاشرت مدون ہو جائے۔ یہ مجلس اپنے افرادات کو اپنی سہ ماہی یا ششماہی روپرتوں کی اشاعت سے پورا کر سکتی ہے۔ اس تجویز کی اہمیت کو ایم جماعت نے تسلیم کیا مگر فرمایا کہ اس کام کے لیے الگ مجلس قائم کرنے کے بجائے اس تجویز کو تجویز ملائم شامل کر دیا جائے جہاں ہمارا مجوزہ ادارہ تحقیقاتِ علمیہ دوسرے مختلف حلوم کی تدوین کرنے کا کام کرے گا وہاں معاشیات کے میدان میں تحقیقِ تدوین کا کام بھی کرے گا۔

تجویز ۵: ملازمین اور مزدوروں کے حقوق کا تعین کیا جاتے

مجوز محمدیجی صاحب (دارالاسلام)

یہ تجویز جماعت کو ایک خاص پہلو سے معاشری تبدیلیوں پر آمادہ کرنے کے لیے

پیش کی گئی تھی۔ اس کا مفاد یہ تھا کہ جماعت مساوات آن و خلام کے اصول پر ملازیں اور مزدوروں کے حقوق مستعین کر سے اور ان کی اوائیں میں ارکان جماعت خاص سختی کا منظاہرہ کریں۔

اس تجویز پر انہمار خیال کرتے ہوئے جاپ مولانا میں احسن صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ اصولیہ مطالبہ برحق ہے، لیکن اس تجویز کے مجموعے مسلکہ پیشی نظر کے چند مدد و پہلوؤں کو ہی سامنے رکھا ہے اگر یہ ان کو سے کو اٹھیں تو ہم پر یہ اغتر اُس دار و ہرگز کہ ان کے پاس کوئی جامع نظام نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس معاملہ میں بہت تفصیل سے احکام دیتے ہیں۔ فردت صرف اس بات کی ہے کہ ان احکام کو تعمیم بخیان کے ذریعہ سے عام کیا جائے۔ اس کے بغیر اگر جزوی تغیرات کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تیجہ خیز بھی نہیں ہوں گے۔

اس کے بغیر اپنی جماعت نے اپنا خیال ظاہر کرنے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت سی تجویزیں کے دروازے میں یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ ہنسیا دیں اٹھانے سے پہلے کھڑکیاں اور روشن داں پناہیاں چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب چیزیں بجائے خود صفری ہیں مگر ان میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ اقدار دینی کو اُنٹ پلٹ دینا مفید ہیں ہو گا۔ جو معاشی اصلاح ہمیں مطلوب ہے وہ مقابلہ بندی سے نہیں ہو گی بلکہ ایمان اور اخلاق کے استعمال ہی سے ہو گی۔ ہمیں ایک پتے کی طرح فطری انتقاد کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہو گا کہ آپ قبل از وقت صنوجی طور پر باخ بننے کے لیے بازار سے ڈارجی خرید کر لگائیں۔ ماحول کا دریاؤ اور مطالبہ کسی پہلو سے خواہ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے اوقت سے پہلے کوئی اقدام مناسب نہیں ہو گا۔

## تجویز ۸:- اساسی تعلیم کیلئے نصاب کی تدوین

محوز جاب محدث صاحب (امرسر)

محوز موصوف نے اساسی تعلیم کے پیسے نصاب کی تدوین کی ضرورت کو پیش کیا۔ اس کے جواب میں امیرِ حجاجت نے فرمایا کہ میرا مزاج کچھ اس قسم کا ہے کہ کچھ کام کرنے پر بھری طبیعت آمارہ نہیں ہوتی۔ نصاب کا تفاہنا بہت پُرزو ہے مگر جامع اور الجمیان بخش کام کے لیے حالات کا منتظر ہوں۔ جماعتی حیثیت سے توہم وہی چیز پیش کریں گے جو جامع اور مکمل ہو۔ اس سے پہلے آپ لوگ اپنے اپنے مدارس کا کام چلانے کے لیے غیر سما طریقہ پر جماعت کے ان اصحاب سے مشورہ لیں جو تعلیم کے کاموں سے نظری پا عملی تعلق رکھتے ہیں۔

## تجویز ۹:- عربی بول چال کی عادت

محوز جاب محدث صاحب (امرسر)

اس تجویز کا اقتضایہ تھا کہ حجاجت کے لوگ عربی بول چال کی عادت ڈالیں تاکہ قرآن و حدیث سمجھنے میں اسانی ہو اور اسلامی تہذیں فروغ پانے لگے۔

اس پر جاب چوپڑی محدث اکبر صاحب (ہید ماہر راٹل پور) نے فرمایا کہ اب تک عربی پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں میں عملًا کتنی ندیاں فرق نہیں ہے۔ خود عرب، عراق اور مصر کے لوگ عربی بولتے ہیں لگو وہ بھی مزربیت سے ہماری ہی طرح بلکہ ہم سے بڑھ کر متاثر ہیں۔ اس لیے ایسے غیر فطری طریقے ہمارے مقصد کے لیے

پکھوڑیا وہ کار آمد نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مولانا امین احسن صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک قرآن و حدیث کو سمجھنے سمجھانے کا تعلق ہے ہم ایک خاص گردہ کو اتنا تیار کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ نظر سے دین کو سمجھے اور سمجھاتے اس غرض کے لیے عربی بول لیئے سے کام نہیں چلتا۔ رہے عوام تو انہیں ہم خود انہیں کی زبان سے اسلام کی سارہ تعلیم دیں گے۔

امیر جماعت نے اس سلسلہ میں اپنی رائے دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کی مادری زبان عربی ہے اور پوچھرات عربی مدارس میں عربی بولتے اور پڑھتے ہیں وہ بھی اُس عربی سے ناواقف ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے لابدی ہے، ہم قرآن اور حدیث کی عربی سے اپنے زندگا کو واقف کرنا چاہتے ہیں مگر اس سلسلہ میں عربی بول چال کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کی اپنی مادری زبانوں کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔

## تجویز ۱: جماعتی لٹریچر کی اشاعت کے باعث میں

مجزہ امیر جماعت (دارالاسلام)

امیر جماعت نے جماعت کا لٹریچر شائع کرنے کے لیے یونائیڈ پبلیشورز (لاہور) اور جناب مولوی شاheed خاں صاحب (لاہور) کی طرف سے آئی ہوئی دو پیش کشوں (Offer) میں سے کس پیش کش کو قبول کیا جاتے۔

یونائیڈ پبلیشورز دائمی حقوق اشاعت یعنی چاہتے تھے مگر مولوی شاheed صاحب

بالمعادنہ کاغذ فراہم کر دینے کی خذک معاملہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس پر بحث تفصیل کے بعد فیصلہ ہوا کہ مولوی شناڈ اللہ خاں صاحب کی پیش کش کو قبول کر دیا جائے۔

## تجویز اہم اطاعتِ امیر کے لذم کے باعث میں مجوزِ جناب حکیم محمد حسین صاحب (کپور تھلہ)

مجوز کا مطالبہ یہ تھا کہ امیرِ جماعت کی کامل اطاعت کو دستور االازم کر دیا جائے مگر اس پر فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ دستور کی ترمیم پوری جماعت کے اجتماع ہی میں آتفاق رائے سے ہو سکتی ہے۔ لہذا اس محدود اجتماع میں اس تجویز کو پیش نہیں ہونا چاہیئے۔ چنانچہ حکیم صاحب نے تجویز واپس لے لی۔ اس کے بعد کچھ سوالات کے زبانی جوابات دیئے گئے۔

---

## چھوٹی نشست

، ہر ما رچ نماز مغرب و نماز عشاء کا درمیانی وقت

یہ نشست پروگرام کے مطابق ایمیر جماعت کی طرف سے پڑائیت دینے کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ اس اجلاس میں ایمیر جماعت نے جو تقریر فرمائی اسے یہاں درج کیا جاتا ہے۔

## امیر جماعت کی اختتامی تقدیریہ

(سید ابوالدین علی مودودی سے)

جو روادیں صبح کی نشست میں جماعتوں کی طرف سے پیش ہوتی ہیں ان پر پیرے محترم رفیق مولانا امین احسن صاحب نے جو تبرہ فرمایا ہے اس کے بعد مزید تبرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے بعض امور کے متعلق تصرف چند مشورے سے پیش کرنے ہیں۔

## ہماری تبلیغی پالسی

### والر قوم فالر قدم

سب سے پہلے تبلیغی پالسی کے متعلق یہ بھوئیجئے کہ ہماری دعوت کا اصول والر قدم فالر قدم ہرنا چاہیے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اس سے اتنا ہی تعریض کرنا چاہیے اور اس پر اتنا ہی زیادہ زور دینا چاہیے ماسی طرح جس چیز کی دینی اہمیت کہ ہے اس پر بعد میں توجہ دی جائی چاہیے اور اس کی تدریجی قیمت کو مبالغہ سے کبھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ فروعات سے پہلے اصل اصول پر زور

دوسری بات یہ ذہن نشین کریجئے کہ جزویات میں سے ایک ایک پر جدرا جدرا زور دینے کے سچائے اس اصل اصول کی فکر کرنی چاہیے جس کی اصلاح سے فرع کی اصلاح خود بخود ایک نظری نتیجہ کے طور پر ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی مکان میں آگ لگی ہوتی ہے اور جگہ جگہ سے کٹایاں اور تنخے جل جل کر گرد ہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک ایک کڑی کے متعدد کور رکھنے کے لیے آگ آگ تباہ نہیں اختیار کی جائیں گی، بلکہ براہ راست ایک ہی تدبیر سے آگ بھانے کی فکر کی جائے گی یا مشلاً اگر کسی شخص کا خون خراب ہو اور اس کے پدن پر جگہ جگہ پھوڑے چکیاں فروار ہو رہے ہوں، تو ایک ایک پھوڑے پر فشر خدا نے اور ایک ایک ناسور پر پایا رکھنے کی جگہ اصلاح خون کی تدبیر کی جائے گی۔ اس اصول پر سہار سے مبلغین کو مقامی حالات پر غور کر کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دو گروں کی جزوی گراہیوں کی اصل علت ہے کیا ہے اور پھر ہر ضرب اسی اصل علت کو درکرنے کے لیے لگائی جائی چاہیے۔ اس کام کے دوران میں خرابی کی شاخوں کی کثرت سے

ذریبی نہ گھرنا چاہیے۔ اسی طرح جن اچھائیوں کو فروغ دینا ہے ان کی جڑ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کی آبیاری میں پوری جانشناقی و کھانی چاہیے۔ یہ جڑ اگر فاتمہ ہرگز تو پتے اور بچل بھول خود بخود نووار ہوتے جائیں گے۔

جماعت کا پورا اٹھیرا اسی اصول پر لکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بسیاری امور کے استحکام کے لیے پورا ذریعہ استدال معرفت کیا گیا ہے، مگر جزویات کو بالعموم نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ شاخوں کی کثائق چنشاں کے بجائے جڑ اور تنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آپ لوگ مسلمانوں کے قصرِ حیات کے ملکتے ہوتے نقوشِ زینت کی طرف زیادہ توجہ نہ ہوں بلکہ اس کی بیماریوں کی نکریں، دردہ دیواروں کی خوبصورتی تو ترتیب کر جائیں گی مگر اس تکمیل سے پہلے آپ پوری عمارت کو گھنڈر بنتا ہو اور یہ نئے پر محروم ہوں گے۔

ہماری زبانوں پر جب کبھی اصلاح کا نام آیا ہے تو ذہن معاً چھوٹی بُرا نیوں کی طرف پہر جاتا ہے اور پھر ہر شترِ اصلاح اسی پرانے مذاق کے مطابق چدیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اب اس مذاق کو تکمیر بدیں ڈالیے۔ بار بار کے تجربے سے معلوم ہو چکا ہے کہ جزویات پر حملہ کرنے سے ہم اپنے نصبِ العین میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنے مبنایشہ اور مناظرہ کی دیواروں سے ہو کر گز نہ تا ہے اور اس طرز پر کام کرنے سے خواہ نخواہ جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے چھینے والے القابِ مشلاً و بیانی اور بعد عقی وغیرہ زبانوں پر آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سر پھٹول تک کے واقعات پیش آتے ہیں اس طریقہ تبلیغ کو دوسرے سے قطعاً اجتناب کیجئے۔

## کتاب و سنت سے براہ راست و اقفیت

جیسا کہ مولانا امین احسن صاحب نے اپنی تقریب میں واضح لکھا ہے، اگر آپ حضرات غور کریں تو معلوم ہو گا کہ درحقیقت تمام خواابیاں یا تو توحید کو نہ بخشنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا رسالت کی حقیقت کو نہ جانشی سے یا عقیدہ معاوی کی ناد اقفیت سے۔ علاوہ بریں کچھ خوابیاں ایسی ہیں جو اصول و فروع دین کی صحیح ترتیب کو اٹھ دیتے ہے مثودار ہوتی ہیں۔ خود بخارا کے یہ اسباب بھی اپنا ایک سبب رکھتے ہیں اور وہ ہے کتاب و سنت سے بے تعلق ہے یہ سب جھپٹا ہی ہیں نہیں پایا جانا یعنکہ بکثرت علماء تک کتاب و سنت سے براہ راست گھری واقفیت نہیں رکھتے۔ اب اگر ہمیں ان حالات کو بدناہ ہے تو اصلاح کا کام بنیاد سے متدرج کر کے اور پر کی طرف لے جانا چاہیتے۔ جب تک بنیادی معتقدات کی اصلاح نہیں ہو جاتی، لوگوں کی فروعی گمراہیوں کو صبر سے گوارا کرنا پڑے گا۔ بیرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فروعات کے معاملہ میں لوگوں کو گھٹا چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ مدعایہ ہے کہ پہلے قدم پر حزنی امور پر بہت زیادہ ہرگز نہ زور دیا جائے۔

یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو شرارت اور بخشش کی بنابرخوابیوں کی حمایت کریں گے۔ عام بیچارے محض جہالت کی وجہ سے بخل کے ہوتے ہیں۔ مذلت ہتے دراز کی غلط تعلیم و تربیت سے ان کے ذہن میں یہ بات اونٹ گئی ہے کہ جن طور طریقوں کو دادا خیار کیے ہوتے ہیں، انہی کا نام دین ہے ان بیچاروں کی اصلاح صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ صبر و تحمل سے یتتدیر بحث توحید، نبوت اور معاوی کے اسلامی تصورات کو ان کے دلوں میں راسخ کیا جائے۔ ان کے عقائد کی اصلاح

میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کوئی مخالفت مددابی دہانی، پکار کر بھر جن نہیں کر سکے گا  
 بلکہ خود میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے گا۔

انقوب عرب پر اگر آپ غور کریں تو اس دعوے کی صداقت اچھی طرح  
 واضح ہو جاتے گی۔ انھنورصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روگردانی کرنے والوں میں  
 بالکل مختصر سا گردہ اپنا تھا جو ذاتی اغراض کی بناء پر مخالفت کر رہا تھا۔ باقی سب لوگ  
 فریب خوردہ اور مسحور تھے۔ پھر جب تحریک پھیل نکلی اور حق کھل کر سامنے آگیا تو  
 بے غرض حق پسند لوگوں کے لیے انکار کے دستے مدد و دہو گئے۔ ٹک کی سام  
 آبادی نے صداقت کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور آخر کاظمی تیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اغراض  
 کی بناء پر لڑ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ میدان میں ہم نہارہ گئے ہیں، اس لیے  
 وہ بر جبکا دیسے پر مجبور ہو گئے۔ لمح جبکی دعوت حق کی کامیابی کا استھنی ہی ہے۔  
 اگر آپ حقیقت کو لوگوں کے سامنے بالکل عوایاں کر دیں تو ان میں سے نیک نیت  
 فریب خوردہ لوگوں کی مسحوریت ختم ہو جاتے گی اور وہ اپنے اپنے کبراء کو تھا  
 چھوڑ کر آپ کے ساتھ آیں گے۔ پھر جو لوگ غرض کی بناء پر ستر راہ بننے ہوئے  
 ہیں وہ بھی اتنے پہلے میں ہو جائیں گے کہ ہماری چلتی ہوئی گاڑی ان کے روکے  
 ٹھڑک سکے گی۔

یہ پر دگرام اگر اختیار کرنا ہو تو پھر "آمین بالجہر" اور "تیجے" اور "قل" کے  
 جھگڑے ختم کیتے۔ غور تو کیجئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی خرابیوں  
 کی اصلاح کے لیے ائے تھے؟ کیا اسلام کا نصب العین بس اتنا ہی کچھ ہے؟ کیا  
 قرآن کی تعلیمات انسان سے اتنا ہی کچھ مطابق ہوتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ کی

پوری توجہ ان ہدایات امور کی طرف کیوں منقطع نہیں ہوتی جن کے لیے ہر دوسری میں  
انہیاں علیہم السلام حنفیین کے مذاہلہ کا تنخواہ مشق بنتے رہے؟ یہ جزویات جن کی  
اہمیت بہت بڑھادی گئی ہے اقامتِ دین کے کام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔  
غلوت و اس کی کچھے کہ لوگ خدا کے دین کو برضا و غبہ تسلیم کریں اور سنت نبویہ کا اتباع کرنے  
پر کامارہ ہوں۔ یہ چیز پیدا ہو گئی تو پھر جس کو جو چیز کتاب و حدیث سے ثابت ہوں نظر  
آئے گی، وہ اسے اختیار کرے گا اور جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہے گا۔ اسے  
ترک کر دے گا۔ زور تو اسی ایک بنیادی اصلاح پر دینا چاہیے۔ اصول سے فروع کی  
طرف سے چلنے کی جو تدریج اُسوہ نبی میں پائی جاتی ہے اگر اسے نظر انداز کر کے محض  
حدیث کی کتابوں کا اتباع شروع کر دیا جائے تو یہ حدیث کی کتابوں کا اتباع تو ہو گا،  
اُسوہ نبوی کا اتباع نہ ہو گا۔

ووراً اسلام سے پہلے کے عرب میں اس سے کم خرابیاں نہیں تھیں جتنی آج  
ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں۔ پھر کیا ایک وقت سب پر چوت لگائی گئی تھی؟ کیا  
اصلاح کی وادی کو ایک ہی جست میں طے کر دیا گیا؟ نہیں بلکہ اصلاح کی غیادیں استوار  
کی گئیں، پھر اساسی اخلاقیات کی تعلیم دی گئی۔ پھر زندگی کے دامن سے ایک ایک داعی  
کو دعونے کا سلسہ بتدریج کیتی جس سے تک جاری رہا۔ اگر آپ حضرات نبی صلی اللہ علیہ  
وسلم کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نبی کے طریق کا رکوب سمجھ دیجئے پھر اگے قدم  
بڑھائیے۔

### مبالغہ سے احتراز

ایک اور چیز میں نے یہ محسوس کی ہے کہ ہمارے رفقاء میں کام کو مبالغہ سے پیش

کرنے کا جذبہ بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس جذبہ کو ختم کر دیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی کارگزاری بنانے میں مبالغہ کا استعمال نہ کیا جاتے بلکہ اپنی جگہ اپنے کام کو تسلی بخش بھی نہ سمجھا جاتے۔ بہتر سے بہتر طریقہ پر کام کرنے کے بعد بھی مسلمان نہ ہو جاتی اور اس کے اچھے پہلوؤں پر قافع ہونے کے بجائے اس کے کمزور پہلوؤں کو دیکھو دیکھ کر بے چین رہئے۔ جو کام صحیح ہوا ہو اس پر خدا کا شکر بجا لایتے اور جو کمی رہ گئی ہو اس سے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے ملکب کیجیے۔ پھر مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ دوسری جماعتتوں کے دو گروں میں کام کرتے وقت آپ پر مناظرہ کی زدح چھا جاتی ہے اور مخالفہ و مکابرہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھا ہے سا اور اگر درحقیقت یہ شبہ صحیح ہے تو ان بلادوں سے نجات حاصل کیجئے۔

اس سلسلہ میں اپنے طرز عمل اور اپنے اندازِ گفتار سے دوسری جماعتتوں پر یہ واعظ کر دیجیے کہ ہر کسی سے جماعتی کش لکش نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری غرض خرابی کی بنیادوں کو مٹانا ہے اور ہمارا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے جو بھی حق سے مخفف ہے ہم بس اس کی خلطی کو صاف بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا خاص طور پر اس کے خلاف کرنی مرکہ نہ ہوگا۔ بہر حال کسی جماعت کو کم از کم آپ کے طرز عمل کی وجہ سے اس بدگانی کا موقع نہ ملا چاہیے کہ آپ اس کے حریب بن کر اٹھے ہیں۔ ہمیں تو صرف نظامِ کفر و جاہلیت کا حریت بن کے رہنا ہے، اسی سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جس کی دلستگی جتنے درجہ کی ہوگی اسی تناسب سے ہماری اس کی دشمنی میں بھی شدت ہوگی۔

مشترکہ جلسوں سے پرہیز

بعض اصحاب کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ آیا ہم ان جلسوں اور ان تقریبات

میں شریک ہو کر تقریریں کر سکتے ہیں جو عام اجنبیوں کی طرف سے منعقد ہوا کرتی ہیں؛ اس میں مشکل نہیں ہیں اس فریبہ سے اپنے خجالت کو چھپلانے کے مراقب ہوتے ہیں مگر میرا مشاہدہ ہے کہ یہ طریقہ کار و فید نہیں ہے۔ ایک اکٹیج پر جب قسم کی بولیاں برائی جاتی ہیں اور انہی کے دُران میں ہماری دعوت بھی پیش کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اُن بولیوں میں سے ایک بولی ہے جو ہمیں خوش کرنے کے لیے ٹھاناتی جاتی ہیں یا یہ جس سے ایک دماغی دستِ خوان ہے جس پر جہاں اور طرح طرح کے مرتبے اور اچار رکھے ہیں وہاں ایک نئی قسم کا یہ اچار بھی رکھ دیا گیا ہے۔ انجمن بازی کے نقاب خانہ میں اگر بالفرض اپنے نے بوجوہ احسن اپنا سیعام پیش کر دیا تب بھی تمہرے اس سے زیادہ کچھ نہ ہو گا کہ لوگ داد دیتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ فلاں صاحب خوب ہوئے۔ ہماری قوم کا حال اُسی کیلے اس بگڑ سے ہوئے رئیس کا سامنہ ہو گیا ہے جس کے گرد پیش بہت سے خوشابدی مصائب ہو گئے ہوئے ہوں اور اسے خوش کرنے میں منہماں ہوں، ان خوشابدوں کے زمرے میں شامل ہو کر آپ حکمتِ دین اور حقائقِ زندگی کو خواہ لکھنی ہی سجدگی کے ساتھ پیش کریں، بہر حال یہ تمہیں المذاجِ قوم آپ کی باتیں انہی کاںوں سے چھپنے گی جو سے وہ دوسرے معاجموں کی باتیں سمجھتی ہے۔ ان دجزہ سے میں جماعت کے مقررین کو مستورہ دیتا ہوں کہ پہلے اپنی انفرادیت یا دوسرے نفظوں میں اپنی اقیازی حیثیت کو خوب مستحکم کر دیجئے اور بالکل جدا گانہ طور پر اپنے نظریت پیش کرتے رہیں۔ البته اگرچہ ملکن ہو کہ مارکیٹ میں جو خوش تقریر یا یکارڈ خوب مقبول ہیں، ان کے اندر آپ اپنا نغمہ بھر سکیں تو یہ صورت معینہ ثابت ہو گی۔ مختلف پیدوں اور مقررین پر اپنا اثر اس حد تک پھیلا دیجئے کہ ان کی تقریروں میں خواہ آپ ہی کے نجیالات آنے

لگیں۔ جب وہ کچھ عورت تک محض تو لا ہمارے نظریات کو بیان کرتے رہیں گے تو بعد نہیں کہ ایک روز انہیں اپنے فنیر کی آواز اور راستے حام کے دباؤ سے اپنی جملی روشن کو بھی بدنا پڑے۔ یہ ایک اگر خوب و سخت کے ساتھ عمل میں لائی جائے تو آخر کار اجرت پر تقریباً کرنے والے مقررین جہنوں نے پوری قوم کا مزارج بجاڑ رکھا ہے، ایسیج سے ہماری بیٹے جائیں گے اور کام کے ادمیوں کو پیک خود سامنے لے آئے گی۔

### مدارس کا قیام

یہ علوم کر کے مجھے بہت سرت ہوتی کہ آپ حضرات جا بجا اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے مدارس قائم کرنے کی فکر میں ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو عمل اقدم اٹھ چکا ہے۔ مگر اس مسئلہ میں یہ اختیاط ضرور کیجئے کہ ایک مدرسہ کو چلانا بجا ہے خود مقصد بن کر نہ رہ جاتے۔ ہمیں تعلیم کو حصولِ مقصد کے ذریعہ کی حیثیت سے استعمال کرنا ہے، جہاں عسوس ہو کہ آپ کا درستہ مقصد کی جگہ لے رہا ہے، یا مقصد میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ایسے مدرسے کو سماں کر دیجئے اور اس کے گھنڈوں کو رومندتے ہوئے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیتے۔ اس غرض کے لیے نصب العین کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم نے جو کارخانے خود جنگی اغراض کے لیے کروڑوں بrupے کے صرفت سے بنائے ہوتے ہیں۔ انہیں جب وہ اصل مقصد کی راہ میں رکاوٹ بننے کیجئی ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ اسی جنگ میں گوس نے اپنے بے شمار صنعتی مراکز کو اور فرانش نے اپنے بھرپوری بیرون کو تباہ کر دیا۔ یہ اتفاقاً میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ پہلے بھی ہمارے تعلیمی کام کرنے والے بہت سے بزرگوں سے یہی لغوش ہو چکی۔

ہے، یعنی انہوں نے درس سے چلانے کو ذریعہ کے ساتھ مقصود کی حیثیت دی دی۔  
اپنے لوگ اس مسلسلہ میں بہت اختیارات سے کام لیں۔

## متقارن کام اور تنظیم

اب رہا متقارن کام اور تنظیم کے استحکام کا سوال، سواں غرض کے لیے میں  
چند موٹی مولیٰ باتوں کی طرف اپنے کی توجہ منقطع نہ کر آتا ہوں۔

مالی ایشیار

سب سے پہلی توجہ طلب چیز یہ ہے کہ اپنے اپنے خلق کے انکان میں مالی ایشیار  
کے جذبہ کو ابھار سیئے۔ اب تک دوسرے مختلف جذبات تو تنااسب سے کچھ زیادہ ہی  
اُبھر سے میں مگر مالی ایشیار کے جذبہ کا تنااسب بہت ہی کم ہے۔ مال اس صورت میں یہ بات  
مزدور ملحوظ ہے کہ اس جذبہ کی اساس اخلاقی فرموداری کے احساس پر ہونی چاہئے۔

ضوابط سے یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش ذکر جائے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہئے کہ جب  
وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے مال کو بھی مسلمان ہونا چاہئے۔ جسم اور جان مسلمان ہو جائیں  
اور مال مسلمان نہ ہو تو اسلام کا اقتضا پورا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ اپنے مال کو بھی  
دائرۂ اسلام میں لایتے اور اس کی شکل بھی ہے کہ اپنے مزدور بھائیوں کی دستیگیری اور  
اپنے بیت المال کی تقویت میں اس سے صرف کیجئے۔ «أذْخُلُوا فِي الْيَتَمْ مَهْفَةً»  
کا مدعایہ ہی ہے۔ پھر جذبہ ایشیار کی پیمائش اللہ کی راہ میں صرف کیجئے جانے والے  
مال کی مقدار سے نہیں ہوتی بلکہ ان تخلیف وہ حالات سے ہوتی ہے، جن کا مقابلہ  
کرتے ہوئے ایک شخص اتفاق کرتا ہے۔ اس لحاظ سے بعض اوقات ایک پہنچ

ایک ہزار روپیہ سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ خدا کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیا کتنا  
بلکہ یہ کہ کون مشکلات کے ہوتے ہوئے دیا۔

### ہفتہ وار اجتماعات کی پابندی

دہمی چیز جس کاشدید پابندی سے انتظام ہونا چاہیے ہفتہ وار اجتماع  
ہے۔ مختلف مقامات پر جماعتی نظام کے مرجانے کی وجہ یہی تھی کہ افراد کو مجتمع رکھنے اور  
جماعت کے ساتھ ان کی عملی دلیلی کو زندہ رکھنے والے اس رشتہ کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا۔  
میں چاہتا ہوں کہ اس معاملہ میں آئندہ فرجی سے کام نہ لیا جائے۔ ہر جگہ کے تمام مقامی اکان  
کو ہفتہ وار اجتماع کی شرکت کا لازم پابند ہونا چاہیے، بجور کن کسی دفعہ سے شرکت نہ کر سکے  
وہ اپنی غیر حاضری کے لیے عقول عذر اپنے امیر کے سامنے پیش کرے اگر کسی طرف سے  
غلط مذہبی پیش ہوگی تو آخر حقیقت گھول ہی جائے گی۔ نیز جو کن بلا عذر یا غیر احمد  
عذرات کی بناء پر سسل چار ہفتہ وار اجتماعات میں شرکیہ نہ ہو، یا ایک طویل مدت تک  
یقین پیچ میں اکثر ناٹھ کرتا رہے تو اس کے متعلق سمجھو لیا جائے کہ وہ نظام جماعت کی پابندیوں  
کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھت۔

ہفتہ وار مقامی اجتماع کے علاوہ اجہاں ایک صلح میں یا قریب کے اضلاع میں  
مشتملدار اکان موجود ہوں، وہاں باہمی صلاح مشورے سے وقت اور مقام کا تعین کر کے  
ہر دہمی تیرہ سے ہمینے اجتماعات منعقد ہوتے رہنے چاہیے جن کا پرد گرام آن ہدایا  
کی روشنی میں مرتب کر لیا جائے جو میں نے اجتماع درج گلہ کے موقع پر ہفتہ وار اجتماعات کے  
لیے دی تھیں خصوصیت کے ساتھ جن علاقوں کے پیشتر اکان مختلف رہائت اور شہروں  
میں منفرد ہوں، وہاں تو اس طرح کے سماں یا روز ماہی اجتماعات بہت ضروری ہیں کیونکہ

اس کے پیغیر منتشر اکان اگر کار مناقع ہو جائیں گے۔  
مرکز سے دا بستگی

علاوہ پریں اپنے اپ کو مرکز سے دا بستگی کرنے میں غفلت نہ بر تیے۔ اس دا بستگی کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ خطوط کے ذریعہ سے مجھے ہر پہلو سے مقامی حالات اور کام کی رفتار کے متعدد واقعیت بہم پہنچاتے رہتے، مگر اسی کا خیال رکھیے کہ چونکہ پرے پاس سیکرٹری ایٹ نہیں ہے، اس لیے کثرت سے جواب طلب خطوط نہیں آئے چاہیں۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہر دوسرے تیسرا ہمینے کام کی روپورٹ مرکز میں پہنچتی رہتے یعنی جماعت کس حال میں ہے، کہیں گستاخاً درود درود تو شروع نہیں ہو گیا۔ کہیں نظام کا کل مشینزی میں کوئی نقص تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں کوئی داخلی یا خارجی مفہوم تو نہیں اٹھا ہے۔ ایسے حالات میں اصلاح احوال کے لیے مرکز پر ضروری ارادہ بہم پہنچاتے گا۔ اگر قیم جماعت کے فرائض ادا کرنے کے لیے مجھے کوئی مناسب گردی مل گیا تو وہ کر کے مرکز کی طرف سے کام کی نگرانی بھی کرتا رہے گا جب تک پریت پیدا نہ ہو اپنے خدا اپس میں مروط ہیں اور وقت فو قائم مرکز میں اگر چند روز بھر کرتے رہیں۔ اسکے پل کر جب تک میں اگر قائم ہو گیا تو پھر مقامی جماعتوں کے ارادہ اور دوسرے سمجھودار اکان یہاں اگر بہت زیادہ استفادہ کر سکیں گے۔

### تعلیم بالغاء

کپور تعلیم کی جماعت تعلیم بالغاء کی جو سلکیم عمل میں لارہی ہے دو مجھے بہت

لے اب یہ رپورٹیں بھیجنے کے لیے باقاعدہ ضابطہ اور چھپے ہوئے فارم مقرر ہیں۔

پسند آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہر جگہ شروع ہو جانا چاہیے اس سے ایک توانا  
 کی راہ میں باقاعدہ طور پر وقت کی قربانی کرنے کی عادت پڑے گی وہ مرے حوالہ سے اپ  
 کا براہ راست رابطہ ترقی کرے گا اور اپ ان سے بلا واسطہ خطاب کے موقع حاصل کر  
 لیں گے۔ نیز اپ تعلیم کو چھپیا کر اپنے لفڑی پر کوچھیا نے اور اپنے پیغام کو فراغ دینے کے  
 لیے بہت دریسع میدان تیار کر لیں گے۔ نہ صرف یہ بکھر جو لوگ بھی اپ کی بلا معاف و ضمیر خدعت  
 سے فائدہ اٹھائیں وہ اپ کے اخلاق سے اتنے متاثر ہو جائیں گے کہ نہایت اسانی  
 سے اپ کی بات ان کے دلوں میں اُتر جائے گی۔ اس کام کی اہمیت کا اندازہ اپ  
 صرف اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ہماری تحریک کے پیشے میں سب سے بڑی رکاوٹ  
 اس ملک کے عوام کی بہالت ہے۔ وہ مرے حاکم میں تعلیم کے عالم ہونے کی وجہ سے  
 یہ حال ہے کہ ایک کتابِ ادھر پیس سے ملکی اور ادھر پس اوقات ایک ہفتہ میں پھاپ  
 لاکھوں میوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ خواہندگی کی وجہ سے خیالات  
 کے پیشے میں کتنا رعایت پیدا ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے ہمیں اپنے نظریات کو  
 لوگوں تک پہنچانے میں بہت دیرگتی ہے، اور برسوں کی کوششوں کے باوجود ابادی  
 کے ایک بہت ہی عیین حصہ کو خیالات سے متاثر کیا جا سکتا ہے، اس رکاوٹ کو مدد  
 کرنے میں جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنی مسامی صرف کرنی چاہیں۔ میں یہ نہیں کہتا  
 کہ ہر کوئی یہی کام کرے، نہیں صرف وہ فحاد اس نازک کام کا بار اٹھائیں جو تعلیم  
 بالفارسی میں ضروری صلاحیتیں رکھتے ہوں۔ جامعہ اسلامیہ نے اس سلسلہ میں  
 جو لفڑی پر شائع کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور جہاں کہیں اس میں سمیت پائی  
 جاتی ہو اس سے بہتے ہوئے کام کیجئے۔ خصوصیت کے ساتھ تعلیم بالفارسی کافی ان

کے دل پر چھر سے سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر جوں جوں آپ عملہ کام کرتے جائیں گے تجربات سے آپ کی صلاحیتیں چمکتی جائیں گی اور رفتار کار بخشی جائے گی۔ خدا کرے کہ آپ اپنے مقاصد حسنہ میں کامیاب ہوں۔

---

اس تقریر کے ساتھ آخری نسبت نعمت ہو گئی۔

## اجتہاد سے اپسی

آخری نشست کے ختم ہونے پر بیشتر لوگ پہلی گاڑی سے روانہ ہو گئے تھے اور صرف وہ حضرات ٹھہر گئے جنہیں امیرِ جماعت نے خود کسی ضروری مشورے کے لیے ٹھہرایا تھا یا جو خود اپنے متعلق کچھ بدایات حاصل کر رہا ہے تھے۔

## مصارفِ اجتماع

بہانے تک اجتماع کے مصارف کا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں آرائش و مکالمات کے سلسلہ کے غیر ضروری مصارف بہرے سے ہوتے ہی نہیں۔ وہی ضروریات قیام و طعام سوائیں پر بھی ناگزیر متنک، ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ٹوڑپوڑ سو افراد کے قیام اور شش رفتہ طعام و ناشترے پر اس گرانی کے زمانہ میں بھی ہماری لاگت چار صور و پہ کے لگ بھگ رہی۔ یہ مصارف اپنے جماعت کے محدود بیت المال پر ڈال دیا گیا تھا، لیکن کوئی چندہ کی اپیلیں کرنا ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ مگر بغیر کسی اپیل کے شرکاء نے اجتماع

نے از خود اپنی فرضِ نسبی اور احساسِ ذمہ داری کے تحت اجتماع کے دنوں میں جو ترمیت  
بیت المال میں داخل کرائیں ان کا مجموعہ مصروفِ اجتماع سے بہت زیادہ تھا۔

## جماعت کے ہمدردی اور کرم فرماؤں سے معدالت

جو حضرات ہمارے کام سے رجیپی اور ہمدردی رکھتے ہیں یا اسے سمجھنے کے خواہشمند  
ہیں ان کی ہدایت سے یہ شکایت اور بجا شکایت کی لگتی ہے کہ ہم نے اپنے اجتماعات  
میں زائرین (Visitors) کو ثرکت سے کیوں روک دیا ہے۔ اس سلسلہ  
میں ہم اپنے سب خیراندشیوں سے معافی کے خواستگار ہیں۔ یقیناً ہم خود اس کی  
ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے کام کو سمجھنا پاہتے ہوں وہ ہمارے اجتماعات  
کی کارروائیوں کو بلا حظہ کریں۔ مگر مجبوری یہ درپیش تھی کہ دارالاسلام کی بستی مختصری چند  
عمارتوں پر مشتمل ہے اور اطرافِ دواخی میں کوئی دوسری بستی بھی موجود نہیں ہے۔  
یہاں زیادہ ہبھاؤں کے لیے انتظام کرنا بہت مشکل تھا۔ ارکین جماعت کا معاملہ تو دوسرے  
ہے۔ وہ تو اپنے کام کے لیے اُر ہے تھے اور قیامِ طعام کے سلسلہ کی تخلیقیت کو  
بخوبی گوارا کر سکتے تھے۔ ان کے لیے تو مزدور بن کر کام کرنے میں خارج تھی۔ نہ بستر اپنے  
کندھوں پر آٹھا کر چلنے میں تخلیقیت محسوس کرتے تھے، نہ بخوبی گارہنا ان کے لیے  
گزار تھا اور نہ وہ کسی میزان کی خدمت کے متنبھ تھے۔ مگر ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے  
کہ جماعت کے باہر کے لوگ یہاں آئیں اور انہیں کسی قسم کی تخلیقیت ہو۔ پھر مشکلات  
دارالاسلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ وہی اور حیدر آباد کے منتظمین اجتماع کو بھی  
کوئی نہ کوئی انتظامی مشکل درپیش ہے۔ کہیں راشن بندی کی وجہ سے اور کہیں

کسی دوسری وجہ سے۔ حالات کی رفتار بتاتی ہے کہ شاید اس قسم کی مشکلات ابھی درپر  
تکمک ہمارا پچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اس لیے ہم کچھ مدت تک کے لیے ہمدردوں سے  
پیش گی اور یہاں کی مدد و رات طلب کرتے ہیں۔

---